

رمضان المبارک کے
احکام مسائل و آداب
اور روزہ داروں کو پیش آنے والے
جدید فقہی مسائل کا حل



احکام و مسائل رمضان

قرآن و سنت کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

تالیف

فضیلہ شیخ ابوالحسن مبشر احمد ربانی

اعداد و اضافہ

محمد طاہر نقاش



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔


kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ



اِحْكَامُ وَمَسَائِلُ رَمَضَانَ



کتاب و سنّت کی اشاعت کا مثالی ادارہ

جملہ حقوق اشاعت برائے دارالابلاغ محفوظ ہیں

نام کتاب احکام و مسائل رمضان

تالیف ابو الحسن مبشر احمد ربانی

ترجمہ محمد طاہر نقاش

اشاعت اول اکتوبر 2005ء

قیمت روپے

پاکستان میں ہماری کتب مندرجہ ذیل اداروں سے مل سکتی ہیں

• لاہور دارالانوار - مرکز القادسیہ - 7230549 - کتب خانہ - 7230585 - کتب خانہ - 7237184 - شمالی کتب خانہ - 7321866
 اسلامی کونٹری - کتب خانہ - 7224228 - کتب خانہ - 720318 - مرکز لاتویار - 7311178 - کتب خانہ - 7639657
 اردو بازار لاہور - انٹرنیٹ کتب خانہ - 6398328 - بی بی ایف کتب خانہ - 831204 - کتب خانہ - 2281368 - پتھر سراج کتب خانہ
 چناب پبلسٹی - کتب خانہ - 5535188 - اسلام آباد - مسعود انٹرنیٹ کتب خانہ - 4065724 - ڈی ایک اسٹریٹ - 7781137
 214720 - حیدرآباد - کتب خانہ - 4381912 - کتب خانہ - 0333-2807284 - کراچی - کتب خانہ - 4453358 - (0300-4453358)

دارالابلاغ پبلسٹری اینڈ ڈسٹری بیوٹرز لاہور 0300 4453358

رمضان المبارک کے احکام مسائل و آداب
اور روزہ داروں کو پیش آنے والے جدید فقہی مسائل کا حل

احکام و مسائل رمضان

قرآن و سنت کی روشنی میں


تالیف :
فضیلہ شیخ ابوالحسن بیشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ



اعداد و اضافہ
مجلد طاہر نقاش



دارالابتدا

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز
لاہور پاکستان





آئینہ احکام و مسائل رمضان

- ۱۰ پیش لفظ ❀
- ۱۱ حرف تمنا: مومن مسائل رمضان کے متعلق بہت محتاط ہوتا ہے ❀
- ### فرضیت، فضیلت اور مقصدِ روزہ
- ۱۵ فرضیت روزہ ❀
- ۱۶ روزہ کی فضیلت ❀
- ۱۸ روزے کا مقصد ❀

رویتِ ہلال کے احکام

- ۱۹ چاند دیکھنا اور پھر روزہ رکھنا ❀
- ۲۱ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک فرد کی گواہی ❀
- ۲۲ چاند دیکھنے کی دعاء ❀

سحری و افطاری کا کھانا پینا اور احکام و مسائل

- ۲۳ اذانِ سحری کی شرعی حیثیت ❀
- ۲۵ اذان کے دوران کھانا پینا ❀
- ۲۶ سحری کھانے کا آخری وقت ❀
- ۲۸ روزہ کے لیے سحری کھانا لازمی ہے ❀
- ۲۹ سب سے بہترین چیز جس سے سحری کھائی جاسکتی ہے ❀
- ۲۹ تاخیر سے سحری کھانا انبیاء کا شیوہ ہے ❀
- ۳۰ روزہ توڑ دینے کا کفارہ ❀
- ۳۱ روزہ کب افطار کیا جائے؟ ❀
- ۳۲ کس چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے؟ ❀

- ۳۳ روزہ افطار کرنے کی دعاء ❀
 ۳۴ روزہ افطار کرانا ❀

روزے کی نیت کیسے کریں؟

- ۳۶ زبان سے پکار کر روزہ کی نیت کرنا ❀
 ۳۸ روزے کا اجر ضائع کر دینے والے اعمال ❀

مباحات، مفسدت اور ممنوعاتِ روزہ

- ۴۰ مباحاتِ روزہ ○
 ۴۳ ممنوعاتِ روزہ ○
 مفسدتِ روزہ ○
 ۴۷ روزے کا کفارہ ❀
 ۴۸ روزے کی رخصت ❀

بعض مخصوص افراد کے روزوں کے احکام و مسائل

- ۵۰ روزہ میں بھول کر کھانا پینا ❀
 ۵۱ تارک نماز کے روزے کا حکم ❀
 ۵۲ جھوٹ بولنے والے کا روزہ ❀
 ۵۳ ہوائی سفر کرنے والا کب افطاری کرے ❀
 ۵۵ آسبجن اور روزہ ❀
 ۵۵ مریض کا روزہ ❀
 ۵۶ بحری، بیری اور فضائی سفر میں روزہ کی رخصت ❀
 ۵۸ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزوں کی قضا ❀
 ۵۹ دورانِ روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ❀
 ۶۰ قیام اللیل کی فضیلت ○

ماہِ رمضان المبارک اور اعتکاف کے مسائل

- ۶۳ اعتکاف کا معنی و مفہوم ❀
 ۶۶ اعتکاف کے لیے نیت ❀

احکام و مسائل رمضان

- ۶۶ جائے اعتکاف میں کس وقت داخل ہونا چاہیے؟ ❀
- ۶۸ معتکف کے لیے جائز امور ❀
- ۶۸ دوران اعتکاف ممنوع افعال ❀
- ۶۹ خواتین کا اعتکاف ❀
- ۶۹ دوران اعتکاف چند جائز کام ❀
- ۷۰ اعتکاف کا اختتام ❀

لیلة القدر اور اس کی فضیلت

- ۷۱ لیلة القدر کیا ہے ❀
- ۷۲ شب قدر کا قیام ❀
- ۷۳ شب قدر کے لیے محنت و کوشش ❀
- ۷۳ شب قدر کی دعاء ❀
- ۷۳ شب قدر کے لیے محنت و کوشش ❀
- ۷۴ لیلة القدر کی تلاش ❀
- ۷۴ لیلة القدر کی علامات ❀
- ۷۶ صدقة الفطر ○
- ۷۸ رمضان المبارک اور قرآن مجید ○
- ۷۹ رمضان المبارک اور خیرات ○
- ۷۹ رمضان المبارک اور عمرہ ○

عید الفطر

- ۸۱ عید الفطر اور مسلمان ❀
- ۸۳ احکام عید ❀
- ۸۵ عید گاہ میں عورتوں کا جانا ❀
- ۸۶ تکبیرات عید ❀
- ۸۶ تکبیرات کے الفاظ ❀
- ۸۷ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ ❀
- ۸۹ نماز عید کے بعد جہادی قافلوں کی روانگی ○
- ۹۱ نقشہ غزوات و سرایا جو عہد نبوی میں رمضان میں ہوئیں ❀

عرب علماء کے فتاویٰ جات

- ۹۶ روزہ رکھنا اور چھوڑنا اقامت والے شہر کے تابع ہوگا
- ۹۷ ہوائی سفر میں روزہ کب افطار کریں؟
- ۹۷ جس شخص کو ماہ رمضان ہو جانے کا علم ہی طلوع فجر کے بعد ہو
- ۱۰۰ مریض ہوں رمضان کے چھ روزے نہیں رکھے کفارہ کیا ہے؟
- ۱۰۱ دن کے وقت احرام ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟
- ۱۰۱ کیا احرام جسم سے خون نکلے اور قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟
- ۱۰۳ نصف شعبان کے روزوں کا حکم
- ۱۰۳ صدقہ فطر کی قیمت؟
- ۱۰۴ بے نماز کا روزہ مؤثر ہے؟
- ۱۰۶ میں مرگی کے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا
- ۱۰۷ والد کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں
- ۱۰۷ دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہے کیا روزہ رکھے؟
- ۱۰۹ نوجوان دوشیزہ پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟
- ۱۰۹ کم عمر بچوں کے روزے کا ثواب والدین کو ملتا ہے
- ۱۱۰ دوسرے ملک میں دیکھا گیا چاند یہاں بھی معتبر ہوگا؟
- ۱۱۱ روزوں کی قضاء دینے سے قبل ہی موت آگئی کیا کریں؟
- ۱۱۱ روزہ دار بیوی سے جماع کرنے والے پر کیا کفارہ ہوگا؟
- ۱۱۲ قضاء دینے میں کئی سال گزر گئے کیا کروں؟
- ۱۱۲ نیکلہ گلوانا اور توتھ پیٹ استعمال کرنا
- ۱۱۳ روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دینا روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟
- ۱۱۴ ہندیا سے پکنے کی حالت جاننے کے لیے چکھنا کیسا ہے؟
- ۱۱۴ اب حائضہ عورت کیا کرے؟
- ۱۱۵ جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا
- ۱۱۶ روزوں کی قضاء کو سر دیوں تک مؤخر کر سکتے ہیں؟
- ۱۱۶ گزرے ہوئے سالوں کے روزوں کی قضاء کیسے دوں؟
- ۱۱۷ روزہ رکھنے کے لیے ماہواری روکنے والی گولیاں کھا سکتی ہوں
- ۱۱۸ روزے کی حالت میں خفیہ عادت بد کا مرتکب کفارہ دے گا؟

احکام و مسائل رمضان

- ۱۱۸ پسینہ کی بو دور کرنے والی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں؟ ❀
- ۱۱۹ ریڈیو سے اعلان سن کر روزہ افطار کر دیا ❀
- ۱۲۰ جن ممالک میں سورج بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے ❀
- ۱۲۱ ایسے تیل کا استعمال جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہ روکے ❀
- ۱۲۱ کیا بالوں کو مہندی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ❀
- ۱۲۲ رمضان میں دن کے وقت خوشبو کا استعمال ❀
- ۱۲۲ رمضان میں خوشبو اور دھوئی کا استعمال ❀
- ۱۲۲ آنکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنا ❀
- ۱۲۳ رمضان میں دن کے وقت نیک لگانا ❀
- ۱۲۳ دمہ کے مریض کا دوا سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ❀
- ۱۲۵ روزے دار کا سینگلی لگوانا اور اس سے خون نکلنا ❀
- ۱۲۶ روزے دار کے جسم سے خون لینا ❀
- ۱۲۷ روزے دار کا خون کا عطیہ دینا ❀
- ۱۲۷ دردرگروہ کا مریض اور روزہ ❀
- ۱۲۸ کیا مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ ❀
- ۱۲۸ کیا مجاہدین روزہ چھوڑ دیں؟ ❀
- ۱۲۹ ڈرائیوروں کا روزہ ❀
- ۱۲۹ بیماری سے شفاء کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے؟ ❀
- ۱۳۰ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا کفارہ ❀
- ۱۳۱ روزہ کی بدعتیں ❀
- ۱۳۳ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا جائز نہیں ❀
- ۱۳۵ کفارہ کے روزوں سے پہلے شوال کے چھ روزے رکھنا ❀
- ۱۳۵ دوائی کے ساتھ غرارے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ❀
- ۱۳۵ کس سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ❀

رمضان المبارک میں کی جانے والی بعض غلطیاں

- رمضان المبارک میں کی جانے والی ۹۳۱ غلطیاں ❀
- رمضان المبارک میں کی جانے والی ۱۸۳۱۰ غلطیاں ❀



پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہر سال اہل اسلام کو نصیب ہوتا ہے۔ جس کی برکات سے کروڑوں مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ اپنی بخشش کا سامان ہر کوئی اپنی اپنی بساط و ہمت کے مطابق جمع کرتا ہے۔ نیکیوں کے حصول کے طریقے مختلف ہیں۔ عبادات و ریاضات صدقہ و خیرات، اسلامی لٹریچر کی اشاعت وغیرہ، یہ سب نیکی کے کام ہیں جن پر اجر کی امید کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر یہ مختصر کتابچہ ترتیب دیا ہے جس میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے احکام و مسائل کو بڑے مختصر انداز میں جمع کیا ہے۔ تمام مسائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کسی ضعیف یا کمزور روایت کو اس میں جگہ نہیں دی گئی۔ ہمارے خطباء و واعظین عام طور پر اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ ہر قسم کی رطب و یابس روایات کو بیان کر دیتے ہیں حالانکہ دینی مسائل میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جو بات مضبوط و پختہ ہو اسے ہی لکھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کئی احکامات مختصر طور پر ذکر کر کے ان کی مختصر تخریج کر دی گئی ہے تاکہ قارئین مسئلے کے حکم سے بھی واقف ہو سکیں اور اگر وہ مفصل حدیث دیکھنا چاہیں تو مذکورہ کتاب کی طرف باآسانی مراجعت بھی کر سکیں اور اس کو کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ دائر اللہ للذی شائع کر رہا ہے۔ یہ رسالہ ہر خاص و عام کے لئے ان شاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور اسے میرے لئے میرے والدین، میری اولاد اور دیگر احباب کو جنہوں نے اس کی اشاعت میں تعاون کیا اجر جزیل عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین!

ابوالحسن مبشر احمد ربانی عفی اللہ عنہ

این بلاک مہزہ زار لاہور

مؤمن مسائلِ رمضان کے متعلق بہت محتاط ہوتا ہے

جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان میں سے ایک روزہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ گویا کہ کسی شخص کے اسلام کے دعوے ”میں مسلمان ہوں“ کی بنیاد روزہ رکھنے پر ہے۔ یعنی اگر تو وہ قرآن و حدیث کی بتائی گئی حدود و قیود میں رہ کر اس ماہ کے مکمل روزے رکھتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہے۔ اگر وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے اسلام کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن عمل کا غیر مسلم۔

روزہ چونکہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم نے اس کے عظیم الشان اجر و ثواب کو روزہ دار کو خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ دار سے اللہ کریم کس قدر محبت کرتا ہے؟! اس کا اندازہ اس بات سے لگالیں کہ اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بُو مجھے کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ روزہ داروں کے جنت میں داخلہ کے لیے اللہ کریم نے پیش طور پر ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس میں سے صرف اللہ کریم کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہی ایک نرالی شان سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ مزید یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کریم روزہ داروں کے نیک اعمال کا اجر پہلے دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اگر وہ اپنے بندے کے عمل کو پسند کر لے تو اسے ایک

احکام و مسائل رمضان

۱۲

سے بڑھا کر سات سو گنا تک کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ اگر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو سات سو روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں اس کو ایک کے بدلے میں دس روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

انہی فضائل کی بناء پر ہر مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے روزہ میں کسی قسم کی کوئی کمی کو تا ہی نہ رہے۔ روزہ ٹھیک ٹھیک قرآن و حدیث کی فراہم کردہ ہدایات اور حدود و قیود میں رہ کر رکھنا چاہیے۔ یعنی بالکل ایسے کہ جیسے اللہ کریم اور اس کے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایسے رکھو۔ اس جذبے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مؤمن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر بات سے جس کے متعلق شک پڑ جائے رک جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رمضان میں روزہ رکھ کر ہر کیا جانے والا عمل قرآن و حدیث کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کام کو کر کے وہ اپنے روزے کے اجر کو ضائع نہ کر بیٹھے، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے، وہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کی بجائے الناعذاب کا مستحق ٹھہرے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھے۔

وہ پورے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی تکمیل اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق چاہتا ہے۔ وہ روزوں سے متعلق ہر معاملہ میں خواہ وہ سحری کھانے کا مسئلہ ہو یا افطاری کا مسئلہ تلاوت کا مسئلہ ہو یا نماز کا..... ہر مسئلہ میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا حکم جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر کے ماہ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بنا سکے اور خوب خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکے۔ وہ رمضان اور روزوں کے مسائل کے متعلق پیش آنے والے خدشات، معاملات کے صحیح حل دریافت کرنے کے لیے علماء کے پاس بار بار جاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، تاکہ اپنے روزے کے اجر کو زیادہ سے زیادہ کر لے، اللہ کریم کی رحمتوں کو محبتوں اور برکتوں کا حقدار بن سکے۔

فضیلۃ الشیخ مولانا ابوالحسن مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے نوجوان عالم باعمل ہیں کہ

جن کو اللہ کریم نے چھوٹی عمر میں ہی علم و عمل کا وافر حصہ عطاء فرما دیا ہے۔ کہ اب بڑے بڑے شیوخ اور مقتدر علماء بھی بعض حل طلب مسائل میں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء پاکستان میں ان کا فتویٰ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے ایک سند مانا جاتا ہے۔ انہوں نے لگوں کے روزمرہ مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے چار جلدوں میں کتاب ”آپ کے سوال قرآن و حدیث کی روشنی میں“ لکھی ہے۔ جو یقیناً پاکستان کی معروف و مقبول کتابوں میں سے ایک ہے۔

رمضان المبارک کے متعلق بھی انہوں نے چند سال قبل ایک مختصر مگر جامع کتابچہ احکام رمضان اور مسائل عید الفطر لکھا جو وسیع تعداد میں لگوں میں تقسیم ہوا اور ان کی رہنمائی کا باعث بنا۔ پھر وقتاً فوقتاً ان کے جو بعض فتاویٰ ہفت روزہ غزوہ، ماہنامہ مجلہ الدعوة، اخوة اور دوسرے جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں جن کو اب دارالاندلس نے ”احکام و مسائل“ میں شائع کر دیا ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرتے وقت ہم نے اس کے علاوہ ہم آخر میں عرب علماء کے فتاویٰ جات جو روزہ داروں کو پیش آنے والے جدید مسائل کا احاطہ بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں، کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔

اس کے لیے ہم نے فتاویٰ علماء بلد الحرام کے علاوہ فتاویٰ اسلامیہ فتاویٰ الصیام اور فتاویٰ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور فتویٰ دارالافتاء سعودی عرب شائع کردہ ”دارالسلام“ لاہور سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے محترم دوست محمد اختر صدیق فاضل مدینہ یونیورسٹی کا مضمون ”روزہ داروں کی غلطیاں“ بھی کتاب کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ جو یقیناً روزہ داروں کو ماہ صیام میں کی جانے والی دانستہ یا نادانستہ غلطیوں سے بچائے گا ان شاء اللہ۔

اب یہ کتاب ہر روزہ دار کے لیے ایک راہنما کتاب، ایک مفتی اور ایک راہبر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم نے اس میں اس دور میں لگوں کو پیش آنے والے جدید فقہی و عصری مسائل کے متعلق رہنمائی فراہم کرنے کی خصوصی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم سے دعاء

ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور فاضل نوجوان عالم باعمل مولانا مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطاء فرما کر اس کتاب کو ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اور لوگوں کو اس راہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

دارالابلاغ کے سٹیج سے مؤمنین مسلمین اور مجاہدین کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ اس تحفہ رمضان کو خود بھی پڑھیں، عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس تحفہ کو تحفہ میں دے کر جنسوں کا تحفہ اللہ سے وصول کرنے کے حقدار ٹھہرنے کی کوشش کریں۔ ان شاء اللہ

فائدہ کتاب سنت

محمد نواز شمس

۲۲ ستمبر ۲۰۰۵ء لاہور



فرضیت، فضیلت اور مقصدِ روزہ

فرضیت روزہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ۱۸۳ / ۲﴾

”اے ایمان! اولوالم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزارگار بن جاؤ۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزہ ان احکاماتِ شرعیہ میں سے ہے جن کا ذکر سابقہ آسمانی ادیان میں موجود ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((بِنِيْ اِلْسْلَامٍ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وِصَوْمِ رَمَضَانَ))^۱

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: ﴿۱﴾ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

۱ بخاری کتاب الایمان باب دعاؤکم ایمانکم (۸) مسلم کتاب الایمان باب بیان ارکان الاسلام (۱۶)

۲ نماز قائم کرنا۔ ۳ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ۴ حج کرنا۔ ۵ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔

روزہ کی فضیلت:

اس حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی ایسی اہم عبادت ہے جسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ روزہ اپنے اندر ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ریا کاری اور دکھاوے سے کوسوں دور اور چشم اغیار سے پوشیدہ سراپا اخلاص اور عابد و معبود ساجد و معبود کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کا علم روزہ دار اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جیسے دیگر عبادات نماز، حج، جہاد وغیرہ کی ایک ظاہری ہیئت و صورت ہوتی ہے روزے کی اس طرح کوئی ظاہری شکل و صورت موجود نہیں جس کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا اس کا ادراک کر سکے۔ جیسے روزہ رازق و مرزوق اور مالک و مملوک کے درمیان ایک سروراز ہے اسی طرح اس کے ثواب و بدلہ کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اور ثواب جب عطاء کرے گا تو فرشتوں کو ایک طرف کر دے گا اور اس کا اجر و ثواب خود عطاء کرے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں:

((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْحُ شَهْوَتِهِ وَطَعَامَهُ مِنْ اجْلِي))^۱

”آدم کے بیٹے کے تمام اعمال بڑھادیئے جائیں گے۔ ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھادی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزہ چونکہ صرف میرے لیے ہی رکھا گیا ہے میں ہی اس کی جزا عطاء کروں گا۔ (دنیا میں) روزہ دار نے اپنی خواہش اور کھانا میری خاطر ترک کیا تھا۔“

۱ مشکوٰۃ (۱۹۵۹) بخاری کتاب الصوم باب هل يقول اني صائم اذا شتم (۱۹۰۳) مسلم کتاب الصوم باب فضل الصيام (۱۱۵۱)

((آجزی)) لفظ کو اگر بصیغہ مجہول یعنی اُجزی پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ”روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنا دیا ہے جس کا نام ((باب الریان)) ہے۔
 ارشاد نبوی ہے:

((فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَّةٌ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ))^۱

”جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ”الریان“ ہے اس سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔“
 ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رَوَايَةٍ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ))^۲

”جب رمضان المبارک کا مہینہ (مؤمنوں پر) داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے (اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے) کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔“

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ صریحہ سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور ان کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بھی ہے جسے ”باب الریان“ کہتے ہیں۔ اللہ کی وسیع جنت کا حصول عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ سے ہی ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی اسی کائنات میں موجود ہیں جو صحیح عقیدے سے محروم اور اعمال بد کے دلدادہ ہیں..... انیون و چرس اور ہیروئن کے زسیا بد کاری اور شراب نوشی

۱۔ مشکوٰۃ (۱۹۵۷) عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابواب الجنة (۳۲۵۷) مسلم کتاب الصیام فضل الصیام (۱۱۵۲)

۲۔ مشکوٰۃ عن ابی ہریرۃ (۱۹۵۶) بخاری کتاب الصوم باب هل يقال رمضان او شهر رمضان (۱۸۹۹) مسلم کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان (۱۰۷۹)

سے محمور و دلدادہ، حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد، عفت و عصمت کی چادر کو تار تار کرنے والے حیاء و غیرت کا جنازہ نکال دینے والے اور پلید و گندی زبانوں سے دمام مست قلندر علی دا پہلا نمبر، نہ نیتی نہ تقضا کیتی جیسے نعرے لگانے والوں نے اپنی نجات کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برعکس معیار و ذرائع اپنا رکھے ہیں۔ اللہ کی جنت ایسی ہے جو ان خرافات سے مبرا ہے اور وہ اہل توحید، مؤمنین و مجاہدین اور اللہ کے نیک و صالح بندوں کے لیے بنائی گئی ہے جو عقائد و اعمال کے اعتبار سے نفیس ترین لوگ ہیں اور فرائض کی پابندی کرنے والے اور نوافل و تطوع کو خوش دلی اور رغبت و اشتہاء اور ذوق و شوق سے سرانجام دینے والے ہیں۔

روزے کا مقصد:

اللہ وحدہ لا شریک نے فرضیت روزہ والی آیت کریمہ میں اس کا مقصد تقویٰ و پرہیز گاری، خوف باری تعالیٰ اور اللہیت کا حصول بتایا ہے۔ روزہ انسان کو ایسی قوت برداشت سکھاتا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آدمی اپنے آپ کو تمام اعمالِ سیئہ، اخلاقِ رذیلہ اور عاداتِ شنیعہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیل و نہار رسوماتِ قبیحہ سے مبرا اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ شب و روز ذکر باری تعالیٰ، تقویٰ و پرہیز گاری، حلاوتِ ایمانی، انابتِ الی اللہ، زہد و تقویٰ، رکوع و سجود، تسبیح و تہلیل، خشوع و خضوع، صبر و تحمل، بردباری، سنجیدگی و متانت جیسی صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ روزہ انسان کو ایسی عظیم خوبی سے ہمکنار کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ محرمات سے اجتناب کر سکتا ہے اور دورانِ روزہ جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچ کر یہ سبق سیکھ لیتا ہے کہ اگر میرے لیے وقتی طور پر حرام اشیاء سے پرہیز کرنا آسان ہے تو مستقل اور ابدی حرام چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔

۱۔ شرح السنۃ (۱۸:۹) ۶/۳۷۷ شعب الایمان للبیہقی باب فی الصیام (۳۹۵۳) ۳/۳۱۸ ابن

حیان (۱۶۱۹)

رؤیت ہلال کے احکام

چاند دیکھنا اور پھر روزہ رکھنا

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا اللَّهَ))^۱

”تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو۔ اگر تم پر مطلع ابراآلود ہو تو کتنی پوری کر لو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ))^۲

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو اور اگر تم پر مطلع ابراآلود ہو تو شعبان کی کتنی کے تیس (۳۰) دن پورے کر لو۔“

یعنی شعبان کی اسی تاریخ کو چاند دیکھو اگر نظر آ جائے تو دوسرے دن روزہ رکھو اور اگر نظر نہ آئے یا مطلع ابراآلود ہو تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”جس شخص نے اس دن (یعنی شک کے دن) کا روزہ رکھا اس نے یقیناً

۱ بخاری، کتاب الصوم: باب قوم النبی اذا راہم الہلال فصوموا (۱۹۰۶) مسلم کتاب۔ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الہلال (۱۰۸۰)

۲ بخاری، کتاب الصوم: باب قول النبی اذا راہم الہلال فصوموا (۱۹۰۶) مسلم (حوالہ سابق) (۱۰۸۱)

ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی۔^۱

واضح رہے کہ روایت ہلال کے لیے عادل و قابل اعتماد ایک شخص ہی کی گواہی کافی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((تَرَأَى النَّاسَ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتَهُ فَصَامَهُ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ))^۲

”لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو آپ ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی روایت کے بارے میں ایک عادل مسلمان کی گواہی کفایت کر جاتی ہے۔ اس کی تائید میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں:

((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ يَعْينِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا عَدًّا))^۳

۱ ابن ماجہ کتاب الصیام: باب ما جاء فی صیام یوم الشک (۱۶۳۰) ابو داؤد کتاب الصیام۔

باب اذا اغمى الشهر (۲۳۳۳) ترمذی (۶۸۶) نسائی (۲۱۹۰) دارمی (۱۶۸۲)

۲ ابو داؤد کتاب الصوم: باب شهادة الواحد علی رؤیة هلال رمضان (۲۳۳۲) دارمی کتاب

الصیام: باب الشهادة علی رؤد کتاب الصوم: باب شهادة الواحد علی رؤیة هلال

رمضان (۲۳۳۲) دارقطنی (۱۵۶/۲) بیہقی (۲۱۲/۳) ابن حبان (۸۵۱) حاکم (۱/۳۲۳)

لتخیص الحبیر (۱۸۷/۲)

۳ ابو داؤد کتاب الصیام: باب فی شهادة الواحد علی رؤیة هلال رمضان (۲۳۳۰) ترمذی۔

کتاب الصوم۔ باب ما جاء فی الصوم بالشهادة (۶۹۱) نسائی۔ کتاب الصیام۔ باب قبول

شهادة الرجل الواحد (۲۱۱۱) ابن ماجہ کتاب الصیام۔ باب ما جاء فی الشهادة علی رؤیة

الهلال (۱۶۵۲) المتقی لابن الجارود (۳۷۹)

”ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: ”میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔“

رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک فرد کی گواہی

رمضان کی رویت ہلال کے لیے ایک عادل اور قابل اعتماد شخص کو گواہی کافی ہے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ))^۱

”لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے بارے میں ایک مسلمان عادل شخص کی گواہی کافی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس مسئلہ کی تائید ایک اور

۱۔ ابو داؤد: کتاب الصوم: باب فی شہادۃ الواحد علی رویۃ ہلال رمضان: (۲۳۳۲) سنن الدارمی (۱۶۹۸) ابن حبان (۸۷۱)

یہ روایت نسائی ترمذی ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان دارقطنی مستدرک حاکم اور طحاوی میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سند میں ساک بن حرب از عباس کے طریق سے مروی ہے اور اس سند میں اضطراب ہے۔ بہر کیف میں نے بطور تائید اس کو ذکر کیا ہے ورنہ یہ مسئلہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

روایت سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا:

”میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے“ تو آپ نے فرمایا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: ”جی ہاں!“ پھر آپ نے فرمایا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں!“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔“^۱ لہذا ایک عادل کی گواہی پر بھی روزہ رکھ لیا جائے۔

چاند دیکھنے کی دعاء:

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو کہتے:

((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلَةَ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ))^۲

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ! تو اسے ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر۔ اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اے ہمارے رب! اور جسے تو پسند کرتا ہے (اے چاند) ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔“



۱۔ ابو داؤد کتاب الصیام: باب فی شهادة الواحد علی رؤیة هلال رمضان (۲۳۴۰) بیہقی (۲۱۲/۳)

۲۔ سنن دارمی کتاب الصوم: باب ما یقال عند رویت الهلال (۳۳۶۱) یہ روایت کثرت شواہد کی بنا پر صحیح ہے ملاحظہ ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ

سحری و افطاری کا کھانا پینا اور احکام و مسائل

اذان سحری کی شرعی حیثیت

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ))^۱

”یقیناً بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں۔“ (راوی نے) کہا: ”عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے وہ اتنی دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں کہا نہ جائے کہ تو نے صبح کر دی، تو نے صبح کر دی۔“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرَّ جَعَ قَائِمِكُمْ وَلَيْبِنَةَ نَائِمِكُمْ))^۲

۱ بخاری، کتاب الاذان؛ باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره (۶۱۷) مسلم، کتاب الصيام باب

ان الدخول فى الصوم. يحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۲)

۲ بخاری کتاب الاذان؛ باب الاذان قبل الفجر (۶۲۱) مسلم، کتاب الصيام۔ باب بيان ان

الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۳)

علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے مراد دونوں کے درمیان وقفے کی قلت ہے نہ کہ حد کی تعیین۔“ نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَدِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيَتَرَبَّصُ بَعْدَ آذَانِهِ لِلدُّعَاءِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ تَرَقَّبُ الْفَجْرَ فَإِذَا قَارَبَ طُلُوعَهُ نَزَلَ فَأَخْبَرَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَتَأَهَّبُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رحمۃ اللہ علیہ بِالطَّهَارَةِ وَ غَيْرِهَا هَذَا ثُمَّ يَرُقَى وَ يَسْرِعُ فِي الْآذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ))

”علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد دعاء وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو اتر آتے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خبر کر دیتے تو وہ وضوء وغیرہ کی تیاری کرتے پھر اوپر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع کر دیتے۔“

غرض سحری کی اذان اور صبح صادق میں اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے آدمی آسانی سے سحری کر لے، قیام کرنے والا واپس پلٹ آئے، سویا ہوا بیدار ہو جائے اور روزے کی تیاری کر لے، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کھانے پینے سے مانع نہ تھی، اس لیے کہ وہ صبح کاذب میں ہوتی تھی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس حدیث کی رو سے سمجھایا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْآذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً))

”ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے

ل شرح مسلم للنوی (۱۷۷/۷)

ل بخاری، کتاب الصوم: باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر (۱۹۴۱) مسلم۔ کتاب

الصيام باب فضل السحور (۱۰۹۷)

ہو گئے۔“ میں (انس رضی اللہ عنہ) نے کہا:

”اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟“ تو انہوں نے کہا: ”پچاس آیات (کی تلاوت کے وقت) کے برابر۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سحری کے وقت فرمایا:

((يَا اَنَسُ اِنِّي اُرِيْدُ الصِّيَامَ اطْعَمْنِي شَيْئًا فَاَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا اَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَا اَنَسُ اَنْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِيَ فَذَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ اِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شُرْبَةَ سَوِيْقٍ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ))^۱

”اے انس! میرا روزے کا ارادہ ہے مجھے کوئی چیز کھلاؤ۔“ میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے انس! کوئی آدمی تلاش کر جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔“ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو وہ تشریف لائے اور کہا: ”میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔“ بنی ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔“ انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ سحری کی پھر کھڑے ہوئے دو رکعت سنت پڑھی اور پھر نماز صبح کے لیے گھر سے نکلے۔“

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا جس میں آدمی سحری کا انتظام کر کے کھانا کھالے۔ لہذا دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں سحری کا بندوبست ہو سکے۔

اذان کے دوران کھانا پینا:

مؤذن کے بارے میں اگر یہ معروف ہو کہ وہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی اذان

۱۔ نسائی، کتاب الصلایم؛ باب السحور بالسویق والتمر (۲۱۶)

دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اذان سنتے ہی کھانے پینے اور دیگر تمام مفطرات سے رک جانا ضروری ہے، لیکن اگر کیلنڈر کے اعتبار سے ظن و تخمین سے اذان دی جائے تو ایسی صورت میں اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی ﷺ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا:

((إِنَّ بِلَالَ يَنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومًا))^۱
 ”بلالؓ رات میں اذان دیتے ہیں سو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔“

نیز فرمایا:

”جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔“^۲
 لیکن اگر یہ بات متعین ہو کہ مؤذن کچھ رات باقی رہنے پر طلوع فجر سے پہلے لگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اذان دیتا ہے جیسا کہ بلال کرتے تھے تو ایسی صورت میں مذکورہ بالا حدیث پر عمل کرتے ہوئے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر کے ساتھ اذان دینے والے مؤذن کی اذان شروع ہو جائے۔

سحری کھانے کا آخری وقت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

(البقرة: ۱۸۷/۲)

”اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔“

۱ بخاری، کتاب الاذان، باب الاذان قبل الفجر (۲۴۰) مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان

الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۲)

۲ بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه (۵۲) مسلم، کتاب المساقاة، باب

اخذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹)

اس آیت کریمہ میں ”الغیظ الابيض“ سے مراد صبح صادق اور ”الغیظ الاسود“ سے مراد رات ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے اونٹ باندھنے والی ایک سیاہ رسی اور ایک سفید رسی اپنے نیکے کے نیچے رکھ لی۔ میں رات کے وقت انہیں دیکھنے لگا تو مجھے صاف نظر نہ آئی۔ (حالانکہ اسے اب تک سفید ہو جانا چاہیے تھا) میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)) [بخاری، کتاب الصوم: باب

قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ...﴾ [۱۹۱۶] ۱

”اس آیت کریمہ میں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی

سفیدی ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سحری کا وقت بتا دیا ہے کہ صبح صادق تک تم کھاپی سکتے ہو، وقت کی حدود متعین کرنے میں کچھ وسعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آج گھڑیاں موجود ہیں ظاہر بات ہے زمانہ رسالت اور زمانہ خلفائے راشدین وغیرہ میں یہ ایجادات موجود نہ تھیں، لوگ ستاروں اور چاند کے ساتھ رات کے اوقات معلوم کرتے تھے۔ اس لیے اگر سحری میں ایک دو منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی قیامت پانہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ)) ۲

”جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس

برتن کو حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے۔“

مولانا عبید اللہ مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

۱۔ مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۰)

۲۔ ابو داؤد، کتاب الصوم: باب فی الرجل یسمع الناء والانیاء فی یدہ (۲۳۵۰) حاکم (۱/۳۲۶)

((وَفِيهِ ابَاحَةُ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ مِنَ الْإِنَاءِ الَّذِي فِي يَدِهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ وَأَنْ لَا يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ))^۱
 ”اس حدیث میں فجر کی اذان سنتے وقت اس برتن سے کھانے اور پینے کی اباحت معلوم ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے۔ [مسند احمد (۳/۳۴۸)]
 علامہ پیشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ [مرعاۃ المفاتیح (۶/۴۷۰)]

روزہ کے لیے سحری کھانا لازمی ہے

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرْعَةٍ مِّنْ مَّاءٍ))^۲

”سحری کھاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے کیونکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ عَلَسٍ سَحْرٍ))^۳

”ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔“

سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہوئی ہے جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ مرعاۃ المفاتیح (۶/۳۶۹)

۲۔ موارد الظمان (۸۸۳)

۳۔ مسلم: کتاب الصیام: باب فضل السحور وتأکید استحبابہ (۱۰۹۶)

((تَسَحَّرُوا أَفَإِنْ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ))^۱

”سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“

((دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَيَّ

الْغَدَاءَ الْمُبَارَكِ))^۲

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک میں سحری کھانے کی دعوت دی تو

آپ ﷺ نے فرمایا: ”صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔“

سب سے بہترین چیز جس سے سحری کھائی جاسکتی ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

((نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ))^۳

”مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے۔“

تاخیر سے سحری کھانا انبیاء کا شیوہ ہے:

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَ أَنْ

نَمْسِكَ يَمِينِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا))^۴

۱ بخاری، کتاب الصوم: باب بركة السحور من غير ايجاب (۱۹۲۳). مسلم کتاب الصيام.

باب فضل السحور (۱۰۹۵)

۲ ابو داؤد، کتاب الصيام: باب من سمى السحور الغداء (۲۳۳۳) نسائی کتاب الصيام۔ باب

دعوة باب السحور (۲۱۶۳) موارد الظمان (۸۸۲) نیل المقصود (۲۳۳۳)

سیدنا ابودراء رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا شاہد حسن سند کے ساتھ صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ | موارد الظمان

[(۸۸۱) (۱۸۲/۳)]

۳ ابو داؤد، کتاب الصيام: باب من سمى السحور الغداء (۲۳۳۵) موارد الظمان (۸۸۳)

(۱۸۶/۳)

۴ موارد الظمان (۸۸۵) طبرانی کبیر (۱۹۹/۱۱) (۱۱۳۸۵) اس کی سند صحیح ہے اور اس کے کئی ایک شواہد بھی

ہیں۔

”یقیناً ہم انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں۔“

روزہ توڑ دینے کا کفارہ

جو آدمی کسی بھی وجہ سے عمداً (جان بوجھ کر) روزہ توڑ دے اس کے لیے یہ کفارہ ہے

کہ وہ

- ایک غلام آزاد کرے۔
- اگر یہ طاقت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔
- اگر یہ نہ ہو سکے تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔^۱

روزہ کب افطار کیا جائے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَتَمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ ﴾ (البقرہ: ۱۸۷)

”روزہ رات تک پورا کرو۔“

یعنی رات ہوتے ہی روزہ افطار کر دو، تاخیر مت کرو۔ رات (لیل) کی ابتدا غروب

آفتاب سے ہوتی ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رقمطراز ہیں:

((الَّيْلُ وَاللَّيْلَةُ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ اَوْ الشَّمْسِ))^۲

”رات غروب شمس سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک یا طلوع شمس تک

ہے۔“

۱ بخاری، کتاب الصوم: باب اذا جامع فی رمضان (۱۹۳۶) مسلم کتاب الصیام۔ باب تغلیظ

تحریرالجماع فی نہار رمضان (۱۱۱)

۲ القاموس المحيط (۱۳۶۳)

علامہ ابن منظور الافریقی فرماتے ہیں: ”مَبْدُئُهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ“ (رات کی ابتدا غروب شمس سے ہے) ۱

ائمہ لغات کی توضیح سے معلوم ہوا کہ لیل کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے لہذا جوں ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لیا جائے تاخیر نہ کی جائے کیونکہ تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہود و نصاریٰ کا کام ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا يَزَالُ الَّذِينَ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ)) ۲

”دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصاریٰ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دیر سے کھولنا یہود و نصاریٰ کا کام ہے اور ان کے قبعین کا روزہ موجود دور میں بھی مسلمانوں سے دس یا پندرہ منٹ بعد کھلتا ہے۔ وہ افطاری کے لیے سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سائرن بھی غروب آفتاب کے بعد دیر سے بجایا جاتا ہے اس کے بارے میں یاد رہے کہ عبادت کے لیے سائرن بجانا بھی یہود و نصاریٰ کا عمل ہے۔ اہل اسلام کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں بلکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا چاہیے:

((عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) ۳

۱۔ لسان العرب (۱۲/۳۷۸) المعجم الاوسط (۸۵۰)

۲۔ ابو داؤد: کتاب الصوم: باب ما يستحب من تعجيل الفطر (۲۳۵۳) ابن ماجہ: کتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الافطار (۱۶۹۸) ابن خزيمة (۲۰۶۰) ابن حبان (۸۸۹) حاکم (۳۳۱/۱)

۳۔ بخاری: کتاب الصوم: باب تعجيل الافطار (۱۹۵۷) مسلم: کتاب الصيام: باب فضل السحور (۱۰۹۸)

”سیدنا سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی سے رہیں گے۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَآذَبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))^۱

”جب رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر سے پیٹھ پھیر جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول دے۔“

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَيَّ سُنَّتِي مَا لَا تَنْتَظِرُ بِفِطْرِهَا النَّجُومِ))^۲

”میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔“

مندرجہ بالا صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے اس لیے روزہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیں، دیر نہ کریں۔

کس چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے؟

سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَيَّ تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْطِرْ عَلَيَّ مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ))^۳

۱ بخاری، کتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم (۱۹۵۴) مسلم، کتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم (۱۱۰۰)

۲ موارد الظمان (۸۹۱)

۳ ترمذی، کتاب الزکاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (۲۵۸) ابوداؤد، کتاب الصيام باب ما يفطر عليه (۲۳۵۵) احمد (۱۸۰۱۶/۳) ابن ماجه (۱۲۹۹) دارمی (۱۴۰۸) موارد الظمان (۸۹۲)

”جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھجور سے کھولے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے روزہ کھولے اس لیے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَي رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ))^۱
 ”رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں کھا کر افطار کرتے اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفِطِرَ لَوْ عَلَي شَرْبَةِ مِنْ مَاءٍ))

”میں نے نبی کریم ﷺ کو افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اگرچہ آپ ﷺ پانی کے ایک گھونٹ ہی پر افطار کرتے۔“

مندرجہ بالا صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں۔ روزے کی وجہ سے جسم میں نقاہت و کمزوری واقع ہوتی ہے کھجور سے جسم کی تقویت ملتی ہے کھجور نہایت مفید اور مقوی غذا ہے۔

روزہ افطار کرنے کی دعاء:

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ جب روزہ افطار کرتے تو کہتے:

((ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَّتِ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ))

۱ ابو داؤد: کتاب الصیام: باب ما یفطر علیہ (۲۳۵۲) ترمذی کتاب الصوم۔ باب ما جاء ما

یستحب علیہ الافطار (۶۹۶) دارقطنی (۱۸۵/۲) مستدرک حاکم (۳۳۲/۱)

”پیس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔“

نیز یہ دعاء بھی پڑھی جاتی ہے۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ))

یہ دعاء مرسل روایت میں ہے اور مرسل روایت محدثین کے ہاں ضعیف کی اقسام سے

ہے۔

روزہ افطار کرانا:

((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ))^۱

سیدنا زید بن خالد جھنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا یا غازی کو سامان جہاد دیا تو اس کے لیے

اسی کی مثل اجر ہے۔“



۱۔ موارد الظمان (۸۹۰): مستند ابی یعلیٰ (۱/۳۲۳) (۳۷۹۲)

روزے کی نیت کیسے کریں؟

نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يُجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ))^۱

”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔“

چونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، مثلاً روزہ کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جیسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں تو روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں۔ یہ دل کا فعل ہے۔ بعض حضرات نے روزے کی نیت کے یہ الفاظ وضع کیے ہیں: ”وَبَصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ“ (میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی) یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں اور نیت بھی کل آنے والے دن کی کر رہا ہے۔ علامہ ابن منظور قمطراز ہیں:

”أَصْلُ الْغَدِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ يَوْمِكَ“ ”غد“ کا اصل یہ ہے کہ وہ دن جو تیرے آج کے دن کے بعد ہوگا۔“ (لسان العرب ۱۰/۲۶)

لہذا یہ الفاظ معنوی طور پر بھی درست معلوم نہیں ہوتے۔

۱ ابو داؤد، کتاب الصوم: باب النية في الصيام (۲۳۵۳) ترمذی، کتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (۴۳۰) نسائی، کتاب الصيام (۲۳۳۳) ابن ماجہ۔ کتاب الصيام (۱۷۰۰) دارمی (۱۷۰۵)

زبان سے پکار کر روزہ کی نیت کرنا:

ہر سال رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی افطاری و سحری کے اوقات کے تجارتی کینڈر شائع ہو کر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن پر اوقات نامہ اور روزہ رکھنے کی نیت "وَبِصَوْمٍ عَدِنَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" کے الفاظ بھی عموماً دیکھے گئے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔

جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً: اگر نماز کی نیت کی طرح روزہ کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جیسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں اور اس کے لوازمات کو بھی ادا کرنے میں سارا دن کوئی کوتاہی نہ کی تو پھر بھی روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔“^۱

تمام عبادات میں نیت ضروری ہے چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ۔ جیسا کہ صحیح حدیث

میں ہے:

((انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

”تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“ (بخاری، کتاب بدء الوحي (۱) ۱۷)

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اعمال کی دو اقسام ہیں:

۱۔ وہ اعمال جو اصل مقصد کے لیے تو نہیں لیکن اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں جیسے وضوء اور غسل ان کی نیت اگر نہ بھی کی جائے تو درست ہوگا۔

آخر الذکر مسئلہ کا حکم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے اور قیاس تک محدود ہے۔ شرعی

۱۔ ابو داؤد، کتاب الصوم: باب النية في الصيام (۲۳۵۳) ترمذی، کتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (۷۳۰) نسائی، کتاب الصيام (۲۳۳۳) ابن ماجہ، کتاب الصيام (۱۷۰۰)

۲۔ مسلم۔ کتاب الامارة باب قول النبي ﷺ "انما الاعمال بالنية" (۱۹۰۷)

دلائل میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ کوئی دلیل اس مسئلہ کی مؤید ہے۔ کیونکہ ((انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کے الفاظ مطلق اعمال پر دلالت کر رہے ہیں اس سے کوئی عبادت بھی (چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بذات خود عبادت) مستثنیٰ نہیں ہے۔

روزے میں نیت احتیاف کے ہاں بھی ضروری ہے مگر مروجہ نیت من گھڑت اور خود ایجاد کردہ ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا محل دل ہے۔ دل سے نیت ضروری ہے۔ اس بات کی شہادت فقہ کی معتبر کتب میں بھی موجود ہے کہ نیت کا محل دل ہے زبان نہیں۔ لیکن اگر یہ الفاظ زبان سے ادا کر بھی لیے جائیں تو نیت نیت نہیں رہتی بلکہ کلام بن جاتی ہے جس کا جواز کہیں موجود نہیں ہے۔ جملہ عبادات مثلاً: طہارت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ میں بالاتفاق نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَالشَّرْحُ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَاجِهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِابْتِغَاءِ

رِضَاءِ اللَّهِ وَامْتِنَالِ حُكْمِهِ)) [فتح الباری]

”شریعت نے نیت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کام کے ارادے کے لیے خاص کیا ہے۔“

معلوم ہوا کہ اعمال میں اعتبار قلبی نیت کا ہوگا، اگر اس کے خلاف زبان سے کچھ کہے تو اعتبار محض لفظوں کا نہیں ہوگا۔ اگر محض زبان سے نیت کرے مگر دل میں نہ ہو تو بالاتفاق یہ ناجائز ہے کیونکہ نیت تو قصد و عزم کا نام ہے۔ لہذا روزہ دار اور نمازی کو روزہ رکھنے اور نماز شروع کرنے سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؛ بلکہ لفظی نیتیں بدعت اور من گھڑت ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔“

معزز قارئین!..... نماز اور روزہ دونوں ہی اہم ترین عبادتیں ہیں، لیکن اگر ان کو بھی بدعات سے نہ بچایا گیا اور اہل بدعت کے حربے کو ناکام نہ بنایا گیا تو پھر ہماری کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔

لہذا روزے سے پہلے بول کر نیت کرنے کی کوئی وقعت نہیں، صرف دل ہی میں پختہ ارادے کے ساتھ روزے کی نیت کر لینا قابل قبول ہوگا۔

روزے کا اجر ضائع کر دینے والے اعمال

یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))^۱

”جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ))^۲

”جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غوغا سے کام لے، اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے: ”میں روزہ دار ہوں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ

۱ بخاری، کتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (۱۹۰۳)

۲ بخاری، کتاب الصوم؛ باب هل يقول اني صائم اذا شتمتم (۱۹۰۴) مسلم، کتاب الصيام، باب

فضل الصیام (۱۱۵۱)

لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ) ۱

”کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔“

مذکورہ بالا صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کو حالت روزہ میں گالی گلوچ، بدکلامی، فحش گوئی، تہمت طرازی، عیب جوئی، دروغ گوئی، جھوٹ کی اشاعت، جھوٹ پر عمل، کذب بیانی، غیبت اور دیگر شیطانی امور سے اجتناب از حد ضروری ہے وگرنہ روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو آدمی بھوکا پیاسا رہ کر امور بالا کا مرتکب ہوگا اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہوگا۔

اسی طرح شب زندہ دار ہو کر اخلاق رذیلہ کا پیکر بنے اور برے اعمال کا مرتکب ہو تو اسے رات کی بیداری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے ملکی اخبارات و جرائد کے ایڈیٹر حضرات کو بھی سوچنا چاہیے جو جھوٹ کی اشاعت اور جرائم کو ہوا دینے سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے اور تقریباً تمام اخبارات فاحشہ اور بدکار عورتوں کی تصاویر نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں۔ اگر حالت روزہ میں ایسے امور سے اجتناب نہ کیا گیا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔



۱۔ دارمی (۲۴۳۳) احمد (۳۴۳۲) حاکم (۱۳۱/۱) بیہقی (۲۴۰/۳) شرح السنۃ (۲۳۷/۶) ابن ماجہ کتاب الصیام۔ باب ما جاء فی الغیۃ (۱۶۹۰)

مباحات، مفسدات اور ممنوعاتِ روزہ

مباحاتِ روزہ

یعنی وہ امور جو روزے کی حالت میں سرانجام دینے جائز ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

① مسواک کرنا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ))^۱
 ”اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضوء کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس میں رسول اللہ ﷺ نے دوسروں سے روزہ دار کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔

② غسل کرنا:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ النَّبِيُّ ﷺ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ))^۲

۱ بخاری کتاب الصوم۔ باب سواك الرطب واليابس للصائم

۲ بخاری۔ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم رقم ۱۹۳۰۔

مسلم۔ کتاب الصیام باب صحۃ صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنب (۱۱۰۹)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ رمضان میں فجر کو اس حال میں پاتے کہ آپ ﷺ اپنے جماع کے سبب جنبی ہوتے پس پھر غسل کرتے اور روزے رکھتے تھے۔“

۳۱ بیوی کا بوسہ لینا اگر اپنے اوپر قابورکھ سکے

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ)) ۱

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے اس حال میں کہ آپ ﷺ روزے سے ہوتے اور آپ ﷺ تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابورکھنے والے تھے۔“

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ)) ۲

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔“

۳۲ بھول کر کھاپی لینا:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَاكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) ۳

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کچھ کھاپی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے۔“

۱ بخاری۔ کتاب الصوم باب المباشرة للصائم رقم ۱۹۳۷

۲ بخاری۔ کتاب الصوم باب القبلة للصائم رقم ۱۹۲۸

مسلم۔ کتاب الصیام باب بیان ان القبلة ی الصوم لیست محرمة (۱۱۰۶)

۳ بخاری۔ کتاب الصوم اذا اكل او شرب ناسیاً رقم ۱۹۳۳

مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب اكل النسي وشربه (۱۱۵۵)

۵) سحری کھا کر غسل جنابت کرنا:

((إِنَّ عَائِشَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ
الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ))^۱
”سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ فجر کو پاتے اس حال میں
کہ آپ ﷺ اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے پھر آپ ﷺ غسل کرتے
اور آپ ﷺ روزے سے ہوتے تھے۔“

۶) سینگلی لگوانا یعنی بطور علاج جسم سے خون نکلوانا

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ
وَهُوَ صَائِمٌ))^۲
”ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگلی
لگوائی۔“

۷) قے (Vomiting) آجانا:

((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ لَا
يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُؤَلِّجُ))^۳
”عمر بن حکم بن ثوبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب کوئی قے کرے تو
روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی۔“

۱ بخاری۔ کتاب الصوم باب الصائم یصبح حیاً رقم ۱۹۳۵ / ۱۹۳۶

۲ مسلم۔ کتاب الصیام باب صحۃ صوم مناطع علیہ الفجر وهو جنب (۱۱۰۹)

۳ بخاری۔ کتاب الصوم باب الحجامة والقی للصائم رقم ۱۹۳۸

۴ بخاری۔ کتاب الصوم باب الحجامة والقی للصائم ص ۳۸۳ طبع دار السلام

۸) کنگھی کرنا اور تیل لگانا:

۹) سرمہ لگانا:

((لَمْ يَرَأْسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا))^۱
 ”سیدنا انس رضی اللہ عنہ حسن اور ابراہیم نے کہا روزہ دار کے لیے سرمہ لگانا درست ہے۔“

۱۰) بھیگا ہوا کپڑا سر پر ڈالنا

((وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ ثَوْبًا فَالْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ))^۲
 ”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا حالانکہ وہ روزے سے تھے۔“

۱۱) ہنڈیا سے نمک وغیرہ چکھنا

((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقَدْرَ أَوْ الشَّيْءَ))^۳
 ”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہنڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

۱۲) حلق میں مکھی وغیرہ کا داخل ہو جانا:

((قَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلَقَهُ الدُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ))^۴
 ”حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔“

۱۔ بخاری۔ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰

۲۔ بخاری۔ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰

۳۔ بخاری۔ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰

۴۔ بخاری۔ کتاب الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا ص ۳۸۱

ممنوعات روزہ

۱ جھوٹ اور برے اعمال:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»^۱ اللہ "سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرنا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

۲ مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا:

«عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِ فِي الْأَسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»^۲ اللہ "سیدنا لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لیں البتہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کریں۔"

۳ شہوت انگیز گفتگو کرنا اور شور و غوغا:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ»^۳ اللہ

۱ بخاری۔ کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به (۱۹۰۳)

۲ ابو داؤد۔ کتاب الصیام۔ باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش (۲۳۶۶) ض ترمذی کتاب الصوم۔ باب ما جاء فی کراهیة مبالغة الاستنشاق الصائم (۷۸۸) نسائی کتاب الطهارة باب المبالغة فی الاستنشاق (۸۷)

۳ بخاری۔ کتاب الصوم باب هل يقول اني صائم اذا شتم (۱۹۰۳) مسلم۔ کتاب الصیام باب حفظ اللسان للصائم (۱۱۵۱)

احکام و مسائل رمضان

۳۵

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزے سے ہو تو فحش گوئی اور شور و غوغا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ ”میں روزے دار آدمی ہوں۔“

﴿۴﴾ بیوی سے بغل گیر ہونا:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ رَخَّصَ لَهُ وَآتَاهُ آخِرُ فَسَأَلَهُ فَفَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کے لیے بغل گیر ہونے کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ اور ایک دوسرا شخص آیا اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہ دی جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو اجازت نہ دی وہ جوان تھا۔“

مفسداتِ روزہ

وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

﴿۱﴾ قصداً قے کرنا

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص پر

۱۔ ابو داؤد۔ کتاب الصیام باب کراهية للشباب ۲۳۸۷

۲۔ ابو داؤد۔ کتاب الصیام۔ باب الصائم۔ یستقیء عمدا (۲۳۸۰) ترمذی کتاب الصوم۔ باب ما

جاء فیمن استقاء عمدا (۷۴۰) ابن ماجہ۔ کتاب الصیام باب ما جاء فی الصائم القی (۱۶۷)

تے غالب آگئی اور اس نے تے کر دی اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا تو اس پر قضاء نہیں اور جس نے ارادتا تے کی وہ روزے کی قضاء دے۔“

﴿جان بوجھ کر کھانا پینا:﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ مِنَ الْإِبْيَضِ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ﴾ (البقرہ: ۱۸۷/۴)

”تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔“

﴿جماع کرنا:﴾

﴿عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِكَتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ آيِنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ هَذَا﴾^۱

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: رمضان میں نے (روزے کی حالت میں) اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھوڑی دیر بعد میں آپ ﷺ میں ایک کھجور کا تھیلا جس کا نام عرق تھا آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: دوزخ میں جلنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا: حاضر ہوں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو لے لو اور صدقہ کر دو۔“

﴿حیض و نفاس:﴾

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورتوں کی

۱ بخاری۔ کتاب الصوم باب اذا جامع فی رمضان (۷۹۳۵) مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب تغلیظ تحريم الجماع فی نهار رمضان (۱۱۱۴)

جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ایسا کیوں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے کہا کہ ہمارے دین اور عقل میں نقصان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصب نہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے کہا: ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔

روزے کا کفارہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا: میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: کیا پے در پے دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر نبی ﷺ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلیا پیش کیا گیا، جس کا نام عرق تھا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا: حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے سے زیادہ محتاج پر بھروسہ کر دوں۔ اس پر نبی ﷺ اس قدر ہنسے کہ آپ ﷺ کے آگے کے دانت دیکھے جاسکے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا جاؤ، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر

والوں کو بھی کھلاؤ۔

روزے کی رخصت

یعنی ایسے امور جن کے پیش آجانے سے روزے ترک کر سکتے ہیں:

① بیماری اور سفر

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۳/۲)

”پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔“

② حمل و رضاعت

سیدنا انس بن مالک جو بنی عبد اللہ بن کعب کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے فرماتے ہیں: رسول کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ دو پہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مجھے فرمایا: قریب آؤ اور کھانا کھاؤ میں نے کا میں روزے سے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب آؤ میں تجھے روزے کے بارے بتاتا ہوں بے شک اللہ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ۔ اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے دونوں کا ذکر کیا دونوں میں سے ایک کا۔ مجھے انہوں سے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے کھانے سے کیوں نہیں کھایا!

③ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا آدمی جو ضعف کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (بقرہ: ۱۸۳/۲)

۱۔ بخاری۔ کتاب الصوم۔ اب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء (۱۹۳۶) مسلم۔ کتاب

الصیام۔ باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار رمضان (۱۱۱۱)

۲۔ ترمذی۔ کتاب لاصوم باب ما جاء فی الرخصة فی الافطار اللجلی والمرضع رقم ۷۱۵

ابوداؤد۔ کتاب الصیام باب اختیار الفطر

”اور جو (بیماری یا بڑھاپے) کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے (جو خوشی سے ایک مسکین کو کھلائے دو یا تین مسکینوں کو کھانا کھلا دے) وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم جانو۔“

سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے شیخ فانی اور مریض جو شفاء یاب ہونے کی امید چھوڑ بیٹھتا ہے رخصت مراد ہے۔^۱



۱۔ دارقطنی ۲/۴۰۵ متقی لابن جارود (۲۸۱) شرح السنة باب الرخصة فی الافطار للعامل والمرضع ۲/۳۱۶-۳۱۷

بعض مخصوص افراد کے روزوں کے احکام و مسائل

جس شخص کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضاء ہو اس کے لیے نقلی روزے مثلاً شوال کے چھ روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ کیونکہ جس کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضاء ہو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق نقلی روزوں سے پہلے اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ فرائض نوافل سے اہم ہیں۔^۱

روزہ میں بھول کر کھانا پینا

جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے ایسے شخص پر حرج نہیں اور اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرہ: ۲/۲۷۶)

”اے ہمارے رب! ہم اگر بھول گئے یا غلطی کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ کر۔“

نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کر لے“

کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔“^۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

۱۔ مجموع فتاویٰ لابن باز: (۱۵/۳۹۲)

۲۔ بخاری کتاب الصوم: باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا (۱۹۳۳) مسلم۔ کتاب الصیام۔

باب اكل الناس وشربه (۱۱۵۵) مستدرک حاکم: (۱/۳۳۰)

”جس نے رمضان میں بھول کر روزہ توڑ دیا تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ۔“^۱
اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں جماع اور دیگر تمام مفطرات شامل ہیں۔

تارک نماز کے روزے کا حکم

صحیح بات یہ ہے کہ عمد نماز ترک کرنے والا کافر ہے لہذا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لے اس کا روزہ اور اسی طرح دیگر عبادات درست نہیں کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام: ۸۸)

”اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ سب اکارت ہو جاتا جو وہ کرتے تھے۔“

نیز اس معنی کی دیگر آیات اور احادیث بھی تارک نماز کے اعمال اکارت ہو جانے کی دلیل ہیں۔ لیکن کچھ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تارک نماز اگر نماز کی فرضیت کا معترف ہے لیکن سستی و بے پروائی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ اور دیگر عبادات برباد نہیں ہوں گی لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے یعنی عمد نماز ترک کرنے والا کافر ہے بھلے وہ نماز کی فرضیت کا معترف ہو کیونکہ اس قول پر بے شمار دلائل موجود ہیں انہی دلائل میں سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے:

”بندہ کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان بس نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔“^۲

اور آپ ﷺ نے مزید فرمایا:

”ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے تو جس نے

نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔“^۳

۱۔ مستدرک حاکم (۱/۳۳۰) سنن کبریٰ بیہقی (۳/۲۴۹) سنن الدار قطنی (۲/۱۷۸)

۲۔ مسلم کتاب الایمان: باب بیان اطلاق اسم الکفر (۸۲)

۳۔ ترمذی کتاب الایمان: باب ما جاء فی ترک الصلاة (۱۲۲) ابن ماجہ۔ کتاب اقامة

اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ نے بریدہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کے طریق سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

جھوٹ بولنے والے کا روزہ

روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے والے یا جھوٹی باتوں پر عمل کرنے والے کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))^۱

”جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔“

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ))^۲

”کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

← الصلاة۔ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (۱۰۷۹) نسائی۔ كتاب الصلاة باب المحكم في ترك

الصلاة (۳۶۳) مسند احمد (۵/ ۳۴۶)

اس بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے احکام اور نماز چھوڑنے کے احکام پر مشتمل ایک مستقل رسالہ ”عقلم تارك الصلاة“ میں سیر حاصل گفتگو کی ہے یہ رسالہ بڑا مفید اور قابل مطالعہ ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به (۱۹۰۳)

۲۔ ابن ماجہ۔ کتاب الصیام۔ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (۱۶۹۰) سنن الدارمی

کتاب الرفاق (۶۷۲۳)

مذکورہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ روزہ دار آدمی کو حالت روزہ میں گالی گلوچ، تہمت طرازی، عیب جوئی، جھوٹ پر عمل اور اس کی اشاعت وغیرہ جیسے اعمال قبیحہ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے ورنہ اسے روزے سے سوائے فاقہ کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اللہ کریم کو وہی روزہ قبول ہوگا جو منع کیے گئے کاموں سے بچایا ہوا ہوگا۔

ہوائی سفر کرنے والا کب افطاری کرے

سوال: اگر کوئی روزہ دار سورج غروب ہونے سے ایک گھنٹہ قبل یا اس سے کم وقت میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے اور وہ شہر سے دور بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ کس وقت افطار کیا جائے گا؟

جواب: اگر روزہ دار جہاز میں سورج غروب ہونے سے ایک گھنٹہ یا کم و بیش وقت قبل سوار ہوا ہے تو وہ جہاز میں اس وقت تک افطار نہیں کرے گا جب تک وہ سورج کو غروب ہوتا نہ دیکھ لے یا سورج غروب ہو جائے یا وہ کسی ایسے شہر میں اترے جہاں سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))^۱

”جب رات اس سمت سے آئے اور دن اس سمت سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے۔“

اور صحیح مسلم میں ہے: عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر میں تھے کہ جب غروب شمس ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! سواری سے نیچے اتر کر ہمارے لیے ستوتیار کرو۔“

۱ بخاری، کتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم (۱۹۵۳) مسلم۔ کتاب الصيام۔ باب بيان وقت انقضاء الصوم (۱۱۰۰)

تو اس نے کہا: ”ابھی تو دن باقی ہے (یعنی ابھی سورج غروب نہیں ہوا)۔“ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”نیچے اتر کر ستوتیار کرو، پس اس نے نیچے اتر کر ستوتیار کیے اور نبی اکرم ﷺ کے پاس لے کر آیا تو نبی اکرم ﷺ نے وہ پیے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”جب سورج اس سمت سے غائب ہو جائے اور رات اس سمت سے آجائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔“

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم رات کو اس سمت سے آتا دیکھو تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یعنی مشرق کی سمت سے دن آجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا محسوس ہونے لگے۔“

شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب جہاز ریاض سے غروب شمس سے پہلے مغرب کی جانب پرواز کر جائے تو آپ اس وقت تک روزے کی حالت میں ہوں گے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اور آپ اس وقت فضا میں ہوں، یعنی سورج غروب ہونے تک آپ افطار نہیں کر سکتے۔ یاد دوسری صورت میں آپ کسی ایسے شہر میں اتر جائیں جہاں سورج غائب ہو چکا ہے۔“

حاصل کلام یہ کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے جہاز میں سوار صائم روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ (واللہ اعلم!)

۱۔ بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب الصوم فی السفر والافطار (۱۹۴۱) مسلم۔ کتاب الصیام: باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (۱۱۰۱)

۲۔ بخاری، کتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم: (۱۹۵۵) مسلم۔ کتاب الصیام: باب بیان وقت انقضاء الصوم (۱۱۰۱)

۳۔ فتح الباری (۳/۲۵۰)

۴۔ مجموع فتاویٰ و مقالات: [۱۵/۳۲۲]

آکسیجن اور روزہ

کسی ایسے مریض کو جسے سانس کی تکلیف ہو، آکسیجن وغیرہ گیس لگائی جاسکتی ہے جبکہ اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

آکسیجن یا کوئی اور گیس جو سانس کے مریضوں کو لگائی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس کی وجوہ درج ذیل ہیں:

① یہ ایک ہوا ہے جو سانس کی بحالی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

② اس گیس یا آکسیجن میں کوئی غذائی مواد یا دوائی نہیں ہوتی جو جسم میں داخل ہو۔ ڈاکٹر محمد علی البار لکھتے ہیں: ”ایسی آکسیجن جو سانس کے مریضوں کو لگائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی غذائی مواد یا دوائی نہیں ہوتی اور یہ زیادہ تر سانس کی بحالی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ہوا میں سانس لینا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہوا کے جسم میں داخل ہونے سے روزے کے فاسد ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔“

اسی طرح ڈاکٹر حسان شمش پاشا لکھتے ہیں: ”جو آکسیجن سانس کے مریضوں کو لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی غذائی اجزا یا دیگر جسم میں داخل ہونے والا مواد نہیں ہوتا اور یہ سانس کی بحالی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کی گیس وغیرہ کا استعمال روزے کو فاسد نہیں کرتا۔

(واللہ اعلم!)

مریض کا روزہ

روزے دار کے لیے اس کے مرض کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی بعض حالات میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے اور کبھی ناجائز، اسی طرح کبھی اس کے لیے روزہ

چھوڑنا واجب ہوتا ہے اور کبھی افضل۔ یہ مریض اور بیماری کے حساب سے حکم لگایا جاتا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض امراض سے روزہ متاثر نہیں ہوتا مثلاً: زکام یا ہلکا سرد دیا دانت کا درد اور اس جیسے دیگر امراض ان امراض سے روزہ ترک کرنا حلال نہیں۔ اگرچہ بعض علماء اس آیت کریمہ: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ کو سامنے رکھتے ہوئے ترک روزہ کو درست قرار دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بے شک یہ حکم معلل بعلة ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزہ ترک کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو تو ہم کہیں گے کہ روزہ ترک کرنا افضل ہے اور اگر روزہ رکھنے سے اس کا مرض متاثر نہیں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اور روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔

دوسری حالت یہ ہے کہ جب روزہ اس پر شاق ہو مگر اسے تکلیف نہ پہنچائے تو روزہ رکھنا یا ترک کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ جب روزہ اس پر شاق ہو اور اسے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو مثلاً: مکمل بیمار آدمی یا شوگر کا مریض یا اس جیسے دیگر امراض ہوں تو اس صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

یعنی ایسا مرض جو ہلاکت کا سبب بنتا ہو خواہ وہ شوگر کا مرض ہو یا کوئی اور مرض ہو مگر جب مریض کو اس کی بیماری سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو جبکہ اسے کوئی مستند ڈاکٹر روزہ رکھنے کی اجازت بھی دے دے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔

بحری، بری اور فضائی سفر میں روزہ کی رخصت

ایسا شخص جس نے ہوائی جہاز یا گاڑی میں سفر کرنا ہے اور اسے مشقت کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تو وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔

ایسے شخص کے لیے سفر میں روزہ ترک کرنا جائز ہے، خواہ سفر ہوائی جہاز میں ہو۔ اس لیے کہ روزہ ترک کرنے کی وجہ سفر میں مشقت نہیں بلکہ سفر ہی ہے، خواہ اسے سفر میں مشقت حاصل ہو یا نہ ہو۔ روزہ ترک کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور قرآن و حدیث کے عمومی دلائل

اس پر موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵/۲)

”پس تم میں جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دیگر ایام میں روزوں کی گنتی مکمل کرے۔“

اس آیت کریمہ میں سفر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کا جواز ملتا ہے اس میں مشقت کا ذکر نہیں ہے۔ نیز ایک حدیث ہے کہ محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان میں آیا تو وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی سواکن اور سازو سامان تیار ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے کچھ کھایا تو میں نے ان سے پوچھا: ”کیا یہ عمل سنت ہے؟“ تو انہوں نے کہا: ”ہاں! سنت ہے۔“ پھر سواری پر سوار ہو گئے۔“

اب سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کوچ کرنے سے قبل ہی روزہ نہیں رکھ رہے۔ حالانکہ انہیں ابھی کوئی مشقت بھی نہیں پہنچی اور اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ یہ حدیث درج کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسافر کے لیے درست ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی روزہ افطار کرے مگر نماز اپنے شہر یا بستی سے نکلنے سے قبل قصر نہیں کر سکتا۔ یہی مذہب اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یعنی اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔

عبید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں صحابی رسول ابولبصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ماہ رمضان میں کشتی میں سوار تھا کہ انہوں نے کشتی روکی پھر اس کے لیے کھانا لایا گیا حالانکہ ابھی ہم گھروں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ سیدنا ابولبصرہ رضی اللہ عنہ نے دسترخوان منگوا کر کہا:

ترمذی: کتاب الصوم: باب ماجاء فیمن آکل ثم خرج یرید سفرا (۷۹۹-۸۰۰) بیہقی (۳/۲۳۸)

اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ”صحیح الترمذی (۷۹۹)“ میں ذکر کیا ہے۔

”قریب آ جاؤ۔“ میں نے کہا ”آپ گھروں کو نہیں دیکھ رہے (یعنی ہم ابھی زیادہ دور نہیں آئے)؟“ تو ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی کرتا ہے؟“ پھر انہوں نے کھانا کھالیا۔^۱

اب ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے کشتی میں سوار ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا اور سفر کی مشقت کا انتظار نہیں کیا۔ پس ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سفر میں مشقت و تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں اور شارع نے سفر میں افطار کرنے کا یہ وصف بیان نہیں کیا۔

نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر کرتے تو ان میں سے بعض کا روزہ ہوتا اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن کوئی دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ سفر میں روزہ سے رخصت ہے۔ اب جس نے روزہ رکھ لیا تو اس نے بھی درست کام کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ رخصت قبول کرنے کو پسند کرتا ہے، جس طرح کہ وہ دیگر عطاء کردہ امور پر عمل کو پسند کرتا ہے۔

حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزوں کی قضا

حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دے، حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں اور نہ ایسی حالت میں نماز روزہ صحیح ہے انہیں بعد میں صرف روزوں کی قضا کرنی ہوگی، نماز کی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا:

”ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا

جاتا تھا۔“^۲

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ حدیث پر علماء کا اتفاق ہے کہ حیض و نفاس والی عورتوں

۱۔ مسند احمد (۱۸/۳۸۸) بیہقی ۳/۲۳۶

۲۔ ابوداؤد، کتاب الطہارۃ: باب فی الحائض لا تقضی الصلاة ۲۶۲۔ نسائی کتاب الصیام

باب وضع الصیام عن الحائض (۲۳۲۰)

کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے نماز کی نہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی رحمت اور آسانی ہے کیونکہ نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لیے نماز کی قضا مذکورہ عورتوں پر بھاری تھی اس لیے برخلاف روزہ کے کہ وہ سال میں ایک بار فرض ہے اور وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے اس لیے اس کی قضا میں کوئی مشقت و دشواری نہیں۔

دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال

دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے دانت صاف کرنے سے بالکل اسی طرح روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ اور ناک میں دوا کے قطرے بھی ڈالے جاسکتے ہیں اور اگر ان قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس کرے تو اس روزہ کی قضا کر لینا احتیاط کی بنا پر ہے واجب نہیں کیونکہ آنکھ اور کان کھانے پینے کے راستے نہیں ہیں البتہ ناک کے قطرے استعمال کرنا جائز نہیں کیونکہ ناک کھانے پینے کے راستے میں شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا: ”ناک میں (وضوء کرتے وقت) خوب اچھی طرح پانی چڑھاؤ الا کہ تم روزہ دار ہو۔“

لہذا مذکورہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث کی روشنی میں اگر کسی نے روزہ کی حالت میں ناک کے قطرے استعمال کیے اور حلق میں اس کا اثر محسوس ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔



۱۔ ابوداؤد۔ کتاب الطہارۃ باب فی الاستثناء (۱۴۲) و کتاب الصیام (۲۳۶۶) ترمذی۔ کتاب الصوم باب ما جاء فی کراہیۃ المبالغۃ الاستنشاق للوائم (۷۸۸) نسائی۔ کتاب الطہارۃ باب المبالغۃ فی الاستنشاق (۸۷)

نماز تراویح اور قیام اللیل

لفظ ”تراویح“ علماء کا رکھا ہوا ایک اصطلاحی نام ہے ورنہ احادیث رسول میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسے حدیث کی رو سے قیام رمضان، صلوة رمضان، قیام اللیل یا صلوة اللیل جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جو تین دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اتفاقی قیام کیا اس کو تراویح کا نام دیا گیا۔ یہ بات احناف کے ہاں بھی مسلم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذوقی قیام اللیل دیکھا کہ وہ کثرت کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ نے جماعت کو ترک کر دیا اور فرمایا:

((أَنْتِي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ))^۱

”مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم پر صلوة اللیل (رات کی یہ نماز) فرض نہ کر دی جائے۔“

طحاوی ۲۳۲/۱ میں قیام اللیل کے الفاظ ہیں۔ بہر کیف اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا جو آپ نے تین رات جماعت کروائی تھی اسے صلوة اللیل یا قیام اللیل ہی کہا گیا ہے لہذا قیام اللیل کی رکعات کی تعداد میں مروی تمام صحیح احادیث تراویح کی تعداد پر دلالت کرتی ہیں۔

قیام اللیل کی فضیلت:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱ بخاری۔ کتاب الاذان۔ باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط (۷۲۹) مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان (۷۶۱)

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))^۱
 ”جس آدمی نے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔“

((عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتَهُ فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ))^۲

”سیدنا عمرو بن مرثدہؓ نے کہا: ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ وقت کی نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں سے۔“

مذکورہ الصدر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سابقہ گناہ معاف کر کے اسے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں صدیقین و شہداء میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص نازل فرما کر ہمارا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے۔ آمین۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، کسی بھی وقت میں ادا کی جاسکتی ہے۔ یہ گیارہ رکعات مسنون نماز ہے۔

۱ بخاری کتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان (۲۰۰۹) مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان (۷۵۹)

۲ موارد الظمان ۱۹ مسند بزار (۱/ ۲۲ / ۲۵۲)

تراویح کی مفصل بحث اور جائزین کے دلائل کا جائزہ لینے کے لیے ہماری کتاب ”مقالات اربانیہ“ کا مطالعہ فرمائیں۔

نبی ﷺ کا عام معمول یہی تھا۔ بسا اوقات آپ ﷺ کی پیشی بھی کر لیتے تھے۔ علماء احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ گیارہ رکعات ہی مسنون ہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث درج کرتا ہوں:

((عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً))

”ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: رسول اللہ ﷺ کی رمضان المبارک میں نماز (تراویح) کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان (یعنی اس کے علاوہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہوتا) آپ گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کا عام معمول مبارک یہی تھا۔ اسے تمام محدثین رحمہم تقریباً تراویح کے بیان میں لائے ہیں۔“



ماہ رمضان المبارک اور اعتکاف کے مسائل

لعوی اعتبار سے اعتکاف کا معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا اور نفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا ہے اور شرعی اعتبار سے تمام دنیاوی معاملات ترک کر کے عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو ”مُعْتَكِفٌ“ اور جائے اعتکاف کو ”مُعْتَكِفٌ“ کہا جاتا ہے۔ اعتکاف سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نبی ﷺ سے سوال کے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے لیکن افضل آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ))^۱

”نبی ﷺ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي

۱ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف فی العشر الاواخر (۲۰۲۶) مسلم۔ کتاب

الاعتکاف باب اعتکاف العشر الاواخر من رمضان (۱۱۴۲)

يَخْرُجُ مِنْ صَيِّحَتِهَا مِنْ اِعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوْاخِرَ^۱

”رسول اللہ ﷺ رمضان کے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے حسب معمول اعتکاف کیا جب اکیسویں رات ہوئی یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ ﷺ اپنے اعتکاف سے نکلے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف بیٹھے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِيهِ))^۲

”رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔“

اعتکاف کے طریقے کے متعلق اہل علم کے دو اقوال ہیں:

(۱) ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون آخری عشرے کا ہے اور آخری عشرے کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ اکیسویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آجائے رات بھر تلاوت قرآن ذکر الہی تسبیح و تہلیل اور قیام میں مصروف رہے اور نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔

(۲) دوسرا موقف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ فجر پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں

۱ بخاری، ابواب الاعتکاف: باب الاعتکاف فی العشر الاواخر (۲۰۲۷) مسلم۔ کتاب الصیام۔ فضل لليلة الندور (۱۱۷۷)

۲ ابن ماجہ، کتاب الصیام: باب جاء فيمن يتدى الاعتكاف وقضاء الاعتكاف (۱۷۷۱) نسائی (۷۱۰) احمد (۲۳۵۹۸) وهو متفق عليه بلفظ مختلف انظر البخاری (۲۰۳۳) مسلم (۱۱۷۳)

داخل ہوتے تھے لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ اکیس کی یا بیس کی صبح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف بیس رمضان کی فجر پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ آخری عشرے کی اکیسویں کی طاق رات جائے اعتکاف میں گزارے، کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا۔ کئی صحابہ کرام یہ اعتکاف کر کے اپنا بوریا بستر باندھ کر گمروں کو چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔“ یہ بیس رمضان کو فرمایا تھا۔ غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آخر آپ انہیں رات کو بھی بلا سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ تم نے اعتکاف کے مقام پر داخل ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بیس کی صبح کو مسجد میں آجائے تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تیار ہو جائے گا اور جائے اعتکاف سے مانوس بھی ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی اکیسویں رات مختلف میں گزرے گی۔ جب کہ دوسرے موقوف کے لحاظ سے ان کی اکیسویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزرے گی جو ایک نقص بھی ہے۔ لہذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ بیسویں کی صبح کو مسجد میں آئے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مختلف میں تیار ہو کر بیٹھے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرے سے بارہ گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (واللہ اعلم)

دوسرا موقوف مبنی براحتیاط ہے وگرنہ اعتکاف تو ایک دن یا رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ عُمَرَ رضی اللہ عنہ سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ))^۱
 ”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ”میں نے زمانہ جاہلیت میں

۱ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف لیلًا (۲۰۳۲) مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب نذر

الکافر۔ وما يفعل فيه اذا اسلم (۱۲۵۶)

ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی۔ ”تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی نذر پوری کرو۔“

معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عشرے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔

اعتکاف کے لیے نیت:

چونکہ اعتکاف عبادت ہے اس لیے اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہر عبادت کے لیے نیت کو لازمی قرار دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

”تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے زبان سے کوئی تلفظ ثابت نہیں۔ یہ دل کا فعل ہے۔ بعض لوگوں نے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کے لیے: ”نَوَيْتُ سَنَةَ الْأَعْتِكَافِ“ (میں نے اعتکاف کی نیت کی) کے الفاظ مختص کر رکھے ہیں یہ غلط ہیں اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔

جائے اعتکاف میں کس وقت داخل ہونا چاہیے؟

اعتکاف کے متعلق اللہ کے نبی ﷺ کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔^۱

دوسری حدیث ہے:

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ

۱ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف فی العشر الاواخر (۲۰۲۶)

مسلم۔ کتاب الاعتکاف۔ باب الاعتکاف۔ العشر الاواخر من رمضان (۱۱۴۲)

۲ بخاری، کتاب بدء الووحی: باب کیف کان بدء الووحی الی رسول اللہ (۱)

مسلم۔ کتاب الامارۃ باب قوله ﷺ ”انما الاعمال بالنية“ (۱۹۰۷)

کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔“

ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ آخری عشرہ کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ اکیسویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آجائے۔ رات بھر تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح و تہلیل اور نوافل میں مصروف رہے اور صبح نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔

جبکہ دوسرا موقف جو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ اعتکاف کا آغاز نماز صبح کے بعد کرتے اکیس یا بیس کی صبح کو اس کا تعین واضح نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ معتکف بیس رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ اکیس کی رات معتکف (اعتکاف کی جگہ) میں آئے کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے لیلۃ القدر میں دو عشرے اعتکاف کیا، نہ ٹلی تو پھر آپ ﷺ نے تیسرے اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تسلسل بھی جاری رکھا حتیٰ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے اعتکاف ختم کر کے گھروں کو چلے گئے۔ آپ ﷺ نے اعلان فرمایا: ”جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے۔“ بیسویں رمضان تھی اور صحابہ نے پھر سے آخری عشرے کا آغاز کر دیا۔“

ذرا غور فرمائیں..... اگر آخری عشرے کا اعتکاف اکیسویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتا تو آپ ﷺ نے بیسویں کے دن کا اعتکاف صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیوں کروایا؟ آپ ﷺ انہیں اکیسویں رات ہی کو بلا لیتے اور کہہ دیتے کہ تم نے معتکف تو توڑ پھوڑ دیا ہے اب رات مسجد میں گزارو اور کل صبح یعنی اکیسویں کی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ داخل ہو جاؤ۔

۱۔ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف فی العشر الاوخر (۴۰۴۷) مسلم۔ کتاب

الصیام باب فضل لیلۃ القدر (۱۱۶۷)

۲۔ مسلم۔ کتاب الاعتکاف باب متی یدخل من اراد الاعتکاف فی معتکفه (۱۱۷۳) ابوداؤد

کتاب الصیام: باب الاعتکاف: (۲۳۶۳)

(مولانا عبدالسلام بستوی کے ”اسلامی خطبات“ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کی صبح کو مسجد میں آجائے تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اکیسویں کو پورا تیار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ سے اکیسویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزردی اور اعتکاف کے ارادے سے اکیس کی صبح کو معتکف میں داخل ہوا تو آخری عشرے سے ایک رات خارج ہو جائے گی جو ایک نقص بھی ہے لہذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ بیسیوں کی صبح کو مسجد میں آجائے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معتکف میں تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرہ سے ۱۲ گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس اضافے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاد پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی موقف کے قائل تھے اور یہ موقف مبنی بر احتیاط ہے۔ واللہ اعلم۔

معتکف کے لیے جائز امور

معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں نہانا، سر میں کنگھی کرنا، تیل لگانا اور ضروری حاجات مثلاً پیشاب، پاخانہ، فرض غسل وغیرہ کے لیے جانا درست ہے اور اعتکاف بیٹھنے والے کو بلا عذر اپنے معتکف سے باہر نہیں جانا چاہیے۔

دوران اعتکاف ممنوع افعال:

- (۱) نجس و ہم بستری کرنا۔
- (۲) بیمار پرسی کے لیے باہر نکلنا۔
- (۳) کسی کے جنازے میں شریک ہونا۔
- (۴) کسی ضروری حاجت کے بغیر باہر نکلنا۔

۱ بخاری (۱/۲۷۲)

۲ البقرة: ۲/۱۸۷ ابن ابی شیبہ (۳/۲۹) عبد الرزاق (۳/۳۶۳)

۳ ابوداؤد۔ کتاب الصیام: باب المعتکف یعود المریض (۳۲۷۳) بیہقی (۳/۳۱۷)

خواتین کا اعتکاف:

خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد ہی میں آ کر اعتکاف بیٹھیں ان کے لیے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: ۱۸۷/۲)

”اور تم ان عورتوں سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں جیسا کہ اس کے متعلق حدیث پیچھے بیان کر دی گئی ہے۔

دوران اعتکاف چند جائز کام:

- ۱ (اگر گھر مسجد کے ساتھ ہی ہو تو) کسی ضروری حاجت کے لیے انسان مسجد سے نکل سکتا ہے۔^۱
- ۲ مسجد میں خیمہ لگایا جاسکتا ہے۔^۲
- ۳ اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے مسجد میں آسکتی ہے اور وہ بیوی کو حرم ساتھ نہ ہونے کی صورت میں گھر چھوڑنے تک ساتھ جاسکتا ہے۔^۳
- ۴ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔^۴
- ۵ اعتکاف کرنے والا اپنا سر مسجد سے باہر نکال سکتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیض میں بھی ہو تو اسے کنگھی کر سکتی ہے اور اس کا سر دھو سکتی ہے۔^۵

۱ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب هل يخرج المعتكف بحوائجہ الی باب المسجد (۲۰۳۵) مسلم (۲۱۷۵)

۲ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الاخیبة فی المسجد (۲۰۳۳) مسلم (۱۱۷۳)


۳ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجہ الی باب المسجد (۲۰۳۵) مسلم (۲۱۷۵)

۴ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب اعتکاف المستحاضة (۲۰۳۷)

۵ بخاری، کتاب الاعتکاف: باب الحائض یرجل راس المعتكف (۲۰۲۹، ۲۰۲۸) مسلم (۱۱۷۳)

اعتکاف کا اختتام:

آخری عشرہ چونکہ شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ یا رمضان کے تیس دن پورے ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ ہی اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مختلف آخری عشرہ پورا ہوتے ہی اعتکاف ختم کر دے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے والے کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اٹھانے کے لیے خاندان و برادری کے بڑے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں، یہ تمام باتیں اور رسومات بے دلیل ہیں۔



لیلۃ القدر اور اس کی فضیلت

لیلۃ القدر کا معنی ”عزت و شرف والی رات“ ہے۔ چونکہ اس مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وجہ سے اس رات کو شرافت و بزرگی، بڑائی اور ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورۃ نازل فرمائی ہے جسے سورۃ القدر کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّؤُوسُ فِيهَا يَا ذَنبَانَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○﴾ (القدر : ۹۷ / ۵ تا ۱)

”یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں (کی عبادت ہے) سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو سرانجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ○ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○﴾ (الدخان : ۳۳ / ۵ تا ۳)

”یقیناً ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ

ہماری جانب سے ہے اور ہم بھیجنے والے ہیں۔“
بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کی مراد ۱۵ شعبان کو قرار دیا ہے جسے عرف عام میں شبِ برأت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نص صریح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قرآن شبِ قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسے ہی سورۃ دخان میں لیلۃ مبارکہ قرار دیا گیا ہے اور یہ رات رمضان المبارک میں ہی ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا اور دوسری آیات سے معلوم ہوا کہ وہ اس ماہ کی اس رات میں نازل ہوا ہے جسے شبِ قدر کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔

اس کے چار بڑے بڑے فضائل یہ ہیں:

- ① ایک تو اس میں قرآن جیسی کتاب ہدایت کا نزول ہوا۔
- ② دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین جبرئیل علیہ السلام کا نزول۔
- ③ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
- ④ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینے (۸۳ سال ۴ ماہ) کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔

شبِ قدر کا قیام:

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))^۱

۱ بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب فضل لیلۃ القدر (۲۰۱۳)۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین۔ باب الترغیب فی قیام رمضان (۷۶۰)

”جس نے شب قدر کا قیام ایمان و ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔“

شب قدر کے لیے محنت و کوشش:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ))^۱

”رسول اللہ ﷺ آخری عشرے میں عبادت کی جس قدر محنت و کوشش کرتے وہ اس کے علاوہ کسی وقت میں نہیں کرتے تھے۔“

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہی فرمایا:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ وَأَيَقَطَّ أَهْلَهُ))^۲

”جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔“

شب قدر کی دعاء

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((أَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَمُّو تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ

۱۔ مسلم کتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان (۱۱۷۵) مشکوٰۃ (۲۰۸۹)

۲۔ بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر۔ باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر (۲۰۱۲) مسلم کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر (۱۱۶۷) اور بعض دفعہ ستائیسویں رات کو بھی۔

مسلم (۷۶۲)

۳۔ بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب العمل فی العشر الاواخر (۲۰۲۳) مسلم (۱۱۷۳)

عَنْيَ))

”میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلة القدر کونسی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا: تو کہہ: ”اے میرے اللہ! یقیناً تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے!“

لیلة القدر کی تلاش

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَحْرَوُ اللَّيْلَةَ الْقَدْرَ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ))^۱

”شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے ان میں سے کوئی خاص رات متعین نہیں۔ یہ بعض دفعہ اکیسویں رات کو بھی پائی گئی ہے۔ [مسلم (۱۱۶۷)] اور بعض دفعہ ستائیسویں رات کو بھی۔ [مسلم (۷۶۲)]

لیلة القدر کی علامات:

لیلة القدر کی کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل چند صحیح علامات بیان کی گئی ہیں۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((صَبِيحَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسَّتْ

حَتَّى تَرْتَفِعَ))^۲

۱۔ مشکوٰۃ (۲۰۹۱) مسند احمد ۶/ ۱۷۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۰۸، ۲۵۸ ترمذی کتاب الدعوات باب (۸۳)

(۲۵۱۳) ابن ماجہ کتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية (۳۸۵۰)

۲۔ بخاری کتاب فضل لیلة القدر: باب تحری لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر (۲۰۱۷)

مسلم کتاب الصیام۔ باب فضل لیلة القدر (۱۱۶۹)

۳۔ مسلم کتاب صلاة المسافرین و قصرها: باب الند الا کیدالی قیام لیلة القدر (۷۶۲)

عبدالله بن احمد فی زیادته علی المسند (۵/ ۱۳۰-۱۳۱) واللفظ له

”شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تھالی۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے قریب لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شَيْءٍ جَفَنَةٍ))^۱
 ”تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے (اس رات) جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو۔“

✽ ایک اور روایت میں ہے:

((لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَةٌ لَا حَارَّةَ وَلَا بَارِدَةَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ))^۲

”شب قدر پر سکون و معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہو جاتی ہے۔“
 شیخ سلیم الہلامی اور شیخ علی حسن عبد الحمید نے اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے لہذا اس عظیم رات میں قیام تلاوت قرآن، کثرت دعاء جیسے امور بخشش کو ضرور اختیار کیجئے اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کیجئے۔ وہ انسان کتنا ہی بدنصیب ہوگا جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہو لیکن وہ اپنی بخشش اور جہنم سے رہائی نہ کروا سکے۔



۱۔ مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا (۱۱۷۰)

۲۔ صفة صوم النبی (ص/ ۹۰)

صدقۃ الفطر

رمضان المبارک کے روزوں میں بسا اوقات ہم سے کوتاہی وغرض صادر ہو جاتی ہے جس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی سے غرباء و مساکین فقراء و حاجت مندوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفَطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))^۱
 ”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور شہوت انگیز گفتگو سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ مقبول ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں:

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ

۱۔ مسند بزار ۱/ ۳۸۶ مسند طیبالسلی ۳۳۹/ ابن خزیمہ ۳/ ۲۳۱ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۔ ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر (۱۶۰۹) ابن ماجہ۔ کتاب الزکاۃ۔ باب صدقۃ الفطر

(۱۸۲۷) بیہقی ۳/ ۱۶۳ مستدرک حاکم ۱/ ۳۰۹ دارقطنی ۲/ ۱۳۸

المُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ))^۱
 ”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع کے جو مسلمانوں کے غلام آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے اور لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))^۲
 ”ہم عہد نبوی میں صدقہ فطر ایک صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع منقہ نکالا کرتے تھے۔“

مذکور بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام اور جو چیز زیر استعمال ہو اس میں سے نکالنا چاہیے۔ اس کی مقدار ایک صاع ہے جس کا وزن سوا سیر ہے اور اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے چند دن پہلے بھی ہو سکتی ہے۔
 صحیح بخاری (۱۵۱۱) میں ہے:

((وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ))

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر دیتے تھے۔“

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب صدقہ فطر پر محافظ مقرر کیا گیا اور شیطان تین راتیں مسلسل اس ڈھیر سے چوری کے لیے آتا رہا۔ بالآخر اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بتا کر جان چھڑائی۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ (۲۱۲۳) بخاری (۲۳۱۱) یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدقہ فطر عید سے چند روز قبل بھی جمع کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ (۱۸۱۵) بخاری کتاب الزکاة باب فرض صدقہ الفطر (۱۵۰۳) مسلم کتاب الزکاة باب زکاة الفطر علی المسلمین (۹۸۳)

۲۔ مشکوٰۃ (۱۸۱۶) بخاری کتاب الزکاة۔ باب صدقہ الفطر صاع من طعام (۱۵۰۶) مسلم کتاب الزکاة۔ باب زکاة الفطر علی المسلمین (۹۸۵)

رمضان المبارک اور قرآن مجید

رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا ربط و تعلق ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ شاید اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلَخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ))^۱

”جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک نبی کریم ﷺ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((كَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ))^۲

”جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ جس سال فوت ہوئے تو انہوں نے دو مرتبہ آپ پر قرآن حکیم پڑھا۔

لہذا ہر مسلمان بھائی کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔

۱۔ بخاری کتاب الصوم باب اجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان (۱۹۰۲) مسلم۔ کتاب

الفضائل۔ باب جوده ﷺ (۲۳۰۸)

۲۔ بخاری کتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ (۳۹۹۸)

رمضان المبارک اور خیرات

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ))

نبی مکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں جب آپ ﷺ سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت رسول مکرم امام اعظم ﷺ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔

لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ مجاہدین مدارس اسلامیہ، فقراء و مساکین، یتیم و یتیم و یتیم و محتاج و تنگ دست، افلاس زدہ خستہ حال، کم مائیہ، مفلوک الحال، برہنہ پا، قلاش و بے نوا افراد کی بھرپور مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور عید الفطر کی خوشیوں میں باسانی شرکت کر سکیں۔

رمضان المبارک اور عمرہ

رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت سے بہرہ مند ہونا حج کے اجر و ثواب کے

برابر ہے۔

۱ بخاری کتاب الصوم باب اجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان (۱۹۰۲) مسلم۔ کتاب

الفضائل۔ باب جوده ﷺ (۲۳۰۸)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ - فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً))

”نبی ﷺ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا: تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ اس نے کہا: ہمارے پاس پانی لانے والے صرف دو اونٹ چھوڑے گئے ہیں میرے بچوں کا باپ یعنی میرا خاوند ایک اونٹ لے کر حج کے لیے چلا گیا ہے اور ایک اونٹ چھوڑ گیا ہے جس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب رمضان المبارک آجائے تو عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا (ثواب کے اعتبار سے) حج کے برابر ہے۔“



عید الفطر

عید کا لفظ ”عود“ سے مشتق ہے جس کا معنی لوٹنا اور پھرنا ہے۔ عید کو یا تو ”عید“ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے یا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش اور فضل و مغفرت لوٹاتا ہے۔ عربوں کی اصطلاح میں ہر وہ اجتماع جو خوشی اور مسرت کا اجتماع ہو ”عید“ کہلاتا ہے۔^۱

مدینہ میں لوگ جاہلیت کے دستور کے مطابق دو عیدیں مناتے تھے۔

• سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں:

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكَم بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ))^۲

”نبی ﷺ (مکہ سے ہجرت کر کے) مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ان کے لیے کھیل کود کے دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے۔ آپ نے پوچھا: یہ دو دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم جاہلیت میں ان دونوں میں کھیلا کرتے تھے تو نبی

۱ ملاحظہ ہو مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ۲۱/۵

۲ مسلم کتاب الحج باب فضل العمرة فی رمضان (۱۲۵۶)

ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب صلاة العیدین (۱۱۳۳) مستدرک حاکم ۱/۲۹۳ بیہقی ۳/۲۷۷

کریم ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے لیے ان دنوں کا بہتر بدل عطاء فرمایا ہے اور وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہیں۔“

کفار و مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں یوم نیروز اور یوم مہرجان بطور عید مناتے تھے۔ نیروز فارسی کے لفظ ”نوروز“ سے معرب ہے یعنی نیا دن۔ یہ شمسی سال کا پہلا دن ہے جس میں سورج برج حمل کی طرف پھرتا ہے اور مہرجان یوم المیزان کا پہلا دن ہے۔ یہ دنوں گرمی اور سردی کے لحاظ سے معتدل ہوتے ہیں اور اس میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ قدیم حکماء نے ان دونوں کو سیر و تفریح کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنے حکماء کی عقلوں کے کمال کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان کی اس مسئلہ میں تقلید کی اور ان دنوں کو عید کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے آکر اسے باطل قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دنوں کا بہتر بدل امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ عید الفطر سن دو ہجری میں شروع کی گئی۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَاتَّقُوا عَلَيَّ اَنَّ اَوَّلَ عِيْدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عِيْدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ))^۱

اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نبی ﷺ کی پہلی نماز عید، عید الفطر ہے جو ۲/ ہجری میں مشروع ہوئی۔ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے ۲ھ میں فرض ہوئے تو اس حساب سے عید الفطر ۲ھ کو مقرر ہوئی اور عید الاضحیٰ کا مہینہ شوال کے بعد ہے۔ پس پہلی عید، عید الفطر ہے۔ یہی بات تقریباً علامہ محمد بن اسمعیل یرمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام ۲/ ۸۳ اور علامہ ابن اثیر جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ تاریخ الکامل ۲/ ۴۳ میں درج کی ہے۔

لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کے دن کو سنت نبوی کے مطابق گزاریں۔ عید کے دن کھیل کود، تماشہ، فلم بینی، لہو و لعب، کوتاہی و غفلت، عیش و عشرت، ہنسی و مذاق، ٹھٹھا و مسخرہ پن، فسق و فجور اور رنگ رلیاں منانے میں نہ گزاریں بلکہ اللہ غفور و رحیم کے آگے اپنے

گناہوں کے جبلِ عظیم کو رکھ کر سجدہ ریزی کرتے ہوئے معافیاں مانگیں، جہاد کی تربیت و ٹریننگ کی خاطر کمر بستہ ہو جائیں کیونکہ عید کے دن لشکر روانہ کرنا بھی سنت نبوی میں داخل ہے خصوصاً نوجوان طبقہ اپنی جوانی کو کام میں لاتے ہوئے جہاد کی تربیت لے کر رزم گاہوں اور میدان کارزار میں شریک ہوتا کہ کفر کے ظلم و ستم، جبر و استبداد اور بریت و تسلط سے مسلمانوں کو آزاد کرایا جائے اور علم اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں بلند کیا جائے۔ اصل عید مجاہد کی ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وادی کفر میں اتر کر کفر کی سطوت و حشمت کا خاتمہ کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

لَيْسَ الْعَيْدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدَ
أَمَّا الْعَيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدَ

”عید اس شخص کی نہیں جس نے نیا لباس زیب تن کیا بلکہ عید صرف اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گیا۔“

مسلمانوں کو عید المبارک کی خوشیاں و مسرتیں مناتے ہوئے صدیاں بیت گئیں لیکن غلامانہ زندگی آج تک موجود ہے۔ مسلمان یہود و ہنود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ پچاس سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان یہود و نصاریٰ کے ذہنی طور پر غلام ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک میں کفر یہ قوانین و دساتیر رائج ہیں۔ قبلہ اول یہود کے نیچے استبداد کا مشق ستم بنا ہوا ہے۔ بابرہی مسجد کے خون کے چھینٹے مسلمانان عالم کو شب و روز دعوت جہاد دے رہے ہیں۔ چین، کو سو، فلپائن، کشمیر، فلسطین، افغانستان و عراق وغیرہ جیسے ممالک مسلمانوں کی غیرت ایمانی کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ہزاروں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عفت و عصمت کی چادریں تار تار کروا بیٹھی ہیں لیکن اسلامیان عالم خواب غفلت کی لمبی چادریں تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ عید کی خوشیاں اپنے حقیقی جو بن کے ساتھ اس دن منانے کا مزہ آئے گا جب ہر سو چادانگ عالم میں پرچم اسلام لہرائے گا۔ کفر کا تسلط، غرور، نخوت، تکبر، رعوت، آن بان شان اور تعلق و شہنی خاک میں مل جائیں گی اور یہ مسلمانوں کے غلام دنو کر ہوں گے۔ جزیئے کی تھیلی بیت المال میں جمع ہوگی اور حدود اسلام کا نفاذ ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

احکام عید

جوں ہی ماہ رمضان اختتام پذیر ہوگا تو عید کا چاند مسلمانوں کے لیے فرحت و سرور، بخشش و مغفرت اور رضوان و رحمت کا پیغام لیے طلوع ہوگا تو اس کو دیکھ کر وہی دعاء پڑھیں جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھی ہوگی۔

۱ غسل کرنا: ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کرو۔ اس نے کہا: جس غسل کو غسل کہا جاتا ہے میں اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ غسل جمعہ عرّفہ قربانی اور عید الفطر کے دن ہے۔

اسی طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مؤطا امام مالک ۱/ ۱۷۷ عبد الرزاق ۳/ ۳۰۹ ابن ابی شیبہ ۲/ ۱۷۷ بیہقی ۳/ ۲۷۸ میں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے احکام العیدین للفریابی (۸۰) میں عید کے دن غسل کرنا بصحیح ثابت ہے۔

۲ اگر عید کے روز ہی جمعہ ہو تو عید کی نماز پڑھ لیں پھر جمعہ کی رخصت ہے۔

۳ عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی تکبیر۔

۴ عید کے روز عید گاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں۔

۵ نبی ﷺ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر نکلتے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کھاتے۔

۱ بیہقی کتاب صلاة العیدین، باب غسل العیدین ۳/ ۲۷۸، مسند شافعی (۳۸۵)

۲ ابو داؤد کتاب الصلاة باب اذا وافق یوم الجمعة یوم عید (۱۰۷۰) نسائی (۱۵۹۰) ابن ماجہ

(۱۳۱۰) ابن خزیمہ (۱۳۶۳) مستدرک حاکم ۱/ ۲۸۸

۳ مسلم کتاب صلاة العیدین (۸۸۵)

۴ بخاری کتاب العیدین باب الخلبة بعد الصید (۹۶۳، ۹۸۹) مسلم کتاب صلاة العیدین

(۸۸۳)

۵ (ابن خزیمہ (۱۳۶۶) ابن حبان (۵۹۳)

- ۶ راستہ بدل کر آنا۔
 ۷ عید الفطر کے روز طاق کھجوریں کھانا مسنون ہے۔
 ۸ عید کی نماز کا وقت وہی ہے جو اشراق کی نماز کا ہے۔
 ۹ گھر سے لے کر عید گاہ تک تکبیرات کہنا۔
 ۱۰ عید کی نماز ہستی سے باہر نکل کر ادا کرنا۔
 ۱۱ عید کے دن بچوں کا اچھے اشعار کہنا بھی جائز ہے۔
 ۱۲ عید گاہ میں منبر کا نہ ہونا۔

عید گاہ میں عورتوں کا جانا

عیدین کی نماز میں عورتوں کو بھی لازمی شرکت کرنی چاہیے۔ جو عورتیں ایام ماہواری میں ہوں وہ بھی عید گاہ کی طرف جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔
 سیدہ ام عطیہؓ بیان فرماتی ہیں:

﴿عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ؓ قَالَتْ: أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْأُخْدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلًّا هُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْدَانَا لَيْسَ لَهَا جَلْبَابٌ؟ قَالَ لَتُبَلِّسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا﴾^۱

- ۱ بخاری کتاب العیدین باب من خالف الطريق اذا رجع (۹۸۶)
 ۲ بخاری کتاب العیدین باب الاکل يوم الفطر قبل الخروج (۹۵۳)
 ۳ ابو داؤد کتاب الصلاة باب وقت الخروج الى العيد (۱۱۳۵)
 ۴ بیہقی ۲/۳
 ۵ بخاری (۹۵۶) مسلم (۸۸۹)
 ۶ بخاری کتاب العیدین باب سنة العیدین لاهل الاسلام مسلم (۸۹۲) (۹۵۲) (۹۳۹)
 ۷ بخاری باب الخروج الى المصلی بغير منبر ص (۱۱۸۹)
 ۸ مشکوٰۃ (۱۱۳۳): بخاری کتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب (۳۵۱) مسلم کتاب صلاة العیدین باب ذکر اباحة خروج النساء في العیدین (۸۹۰)

”ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عیدین کے دن حیض والی اور پردہ دار دو شیراؤں کو نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعاء میں شریک ہو جائیں اور حائضہ عورتیں نماز والی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ ایک عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اسے اس کی ساتھ والی چادر اوڑھادے۔“

عورتیں عید گاہ کی طرف زیور پہن کر جاسکتی ہیں۔ صحابیات (رضی اللہ عنہن) عید کے روز زیور پہن کر گئی تھیں۔ جب نبی ﷺ نے انہیں وعظ و نصیحت کی اور صدقے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈال دیں۔^۱

تکبیرات عید:

- سیدنا علی رضی اللہ عنہ ۹ ذی الحج کی فجر سے لے کر ۱۳ ذی الحج کی عصر تک تکبیرات کہتے۔^۲
 - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن گھر سے لے کر عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے۔^۳
- تکبیرات کے الفاظ:

• عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ الفاظ کہتے:

((اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَاجِلٌ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
الْحَمْدُ))^۴

• سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس طرح تکبیرات کے الفاظ آئے ہیں:

((اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا))^۵

۱۔ بخاری کتاب العلم باب عظة الامام انسواء تعليمهن (۹۸)

۲۔ بیہقی ۲۷۹/۳

۳۔ بیہقی ۲۷۹/۳

۴۔ بیہقی ۳۱۶/۳

۵۔ ابن ابی شیبہ ۳۸۹/۱، ۳۹۰

نماز عید ادا کرنے کا طریقہ:

● نبی کریم ﷺ عید گاہ پہنچ کر پہلے دو رکعت نماز کی امامت کراتے پھر خطبہ دیتے اور لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے خطبہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور حکم دیتے پھر واپس لوٹتے۔^۱

اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضوء ہو کر قبلہ رخ ہوں اور نماز عید کی نیت کے ساتھ دو رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں پھر سینے پر باندھ لیں۔ دعائے استفتاح پڑھیں پھر قرأت سے پہلے سات تکبیریں کہیں۔

● سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كَلْتَيْهِمَا))^۲

”نبی ﷺ نے فرمایا: عید الفطر کی پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیرات ہیں اور قرأت ان کے بعد ہے۔“

تمام تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کریں اور ہاتھ باندھ لیں کیونکہ قیام میں بالاتفاق ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ تکبیرات کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد امام پہلی رکعت میں سورۃ ﴿ق﴾ یا سورۃ ﴿الاعلیٰ﴾ پڑھے۔^۳

پھر رفع الیدین کے ساتھ تکبیر کہہ کر رکوع کریں۔ غرض پھر جیسے عام طور پر نماز پڑھتے

۱ بخاری۔ کتاب العیدین۔ باب الخروج الى المصل بغیر منیر (۹۵۶) مسلم۔ کتاب صلاة العیدین (۸۸۹)


۲ ابوداؤد (۱۱۵۱) بیہقی ۳/۲۸۵ دارقطنی ۲/۳۸

۳ یہی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سند احمد اور ابوداؤد میں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سند بزار میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند احمد میں موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے امام فریابی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”احکام العیدین“ ملاحظہ ہو۔ یہ کثرت شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔

۴ مسلم (۸۷۸، ۸۹۰)

ہیں پڑھیں۔ اس طرح رکعت مکمل کر کے انھیں۔ دوسری رکعت میں قرآن سے پہلے پانچ تکبیریں مع رفع الیدین کہیں اور اس رکعت میں امام فاتحہ کے بعد سورۃ قمر یا غاشیہ پڑھے۔ پھر حسب معمول رکعت مکمل کریں۔

نماز سے فارغ ہو کر خاموشی سے امام کا خطبہ سنیں۔ نماز عید کا صرف ایک خطبہ ہی مسنون ہے۔ جمعہ کی طرح دو خطبے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔



نماز عید کے بعد جہادی قافلوں کی روانگی

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَا مَرْبِسِيءَ أَمْرًا بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.....))

”نبی کریم ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے تھے۔ سب سے پہلے نماز عید ادا کرتے پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھ جاتے۔ آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور حکم دیتے۔ اگر آپ کوئی لشکر روانہ کرنا چاہتے تو اسے بھیجتے یا کسی اور کام کا حکم کرنا ہوتا تو حکم دیتے پھر واپس پلٹتے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو عید المبارک کے موقع پر جہاد جیسے اہم ستون کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلمانوں کا امام وعظ و نصیحت بھی کرے اور جہاد کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہو قافلے بھی روانہ کرے کیونکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ ان کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنا ان کے مردہ ضمیر کو غیرت ایمانی کی جلا بخشنا، تربیت و تدریب پر ابھارنا اور معسکرات کی طرف نکالنا علماء و خطباء کا کام ہے۔ لہذا اس

اہمیت کو کبھی بھی پس پشت نہ ڈالیں۔ عید والے دن فنون حرب اور جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جائے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین میں باب الحراب والدرق یوم العید (ص ۱۸۸) باندھ کر حبشہ کے لگوں کا برچھوں اور ڈھالوں سے کھیلنے کا ذکر جس حدیث میں وارد ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کھیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کر کے دکھایا۔ (ملاحظہ ہو بخاری ۹۵۰)

اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم عید کے روز اگر کوئی کھیل کھیلنا چاہیں تو وہ ایسا ہو جس کا اسلام کو فائدہ ہو۔ اسلامی کھیلوں میں گھڑ سواری (Riding) تیراکی (Swiming) پیدل چلنا (Jodging) اور نشانہ بازی وغیرہ جہادی کھیل کھیلیں اور لگوں کو ان کی اہمیت بتلا کر ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں تاکہ امت مسلمہ اپنے شاندار اور تابناک ماضی کو از سر نو زندہ کر سکے اور نوجوان طبقے کی تدریب و ٹریننگ کے لیے مجاہدین کشمیر و افغانستان کے معسکرات حاضر ہیں۔ وہاں پہنچیں اور جہاد کی تربیت لیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین



لقنہ غزوات و سرایا جو عہد نبوی ﷺ میں رمضان المبارک میں ہوئیں

بہر شہار	غزوة یا سریرہ کا نام صحیح تاریخ	تعداد وہ سرمدار	تعداد اسامی کی	تعداد مسلمانوں کا	ذبح و نقصان	نتیجہ	حکایت
◇	سریرہ سیف الہجر رمضان لہ	۳۰	امیر حمزہ بن عبدالطلب	۳۳۰۰ ابو جہل			یہ سریرہ احوال امیر کے تجسس کے لیے بھیجا گیا تھا دشمن نے مسلمانوں کو باخبر پایا اور لوٹ گیا
◇	غزوة بدر اکبری رمضان لہ	۱۰۰۰ ابو جہل	ذبحی یا اسیرہ ۲۲ شہید	ذبحی یا اسیرہ ۷۰ مقتول		مسلمانوں کی فتح ہوئی	بدر مکہ سے سات منزل اور مدینہ سے تین منزل ہے دشمن دو تہائی سفر طے کر چکا تب ثابت ہو گیا کہ وہ مدینہ آ رہا ہے تو نبی ﷺ مدافعت کے لیے نکلے

<p>۴</p>	<p>سریہ عمیر بنو العدی الحی رمضان ۲ھ</p>	<p>عمیر ایک</p>	<p>ایک سماة عصماء بنت مروان ظہیرہ</p>			<p>عصماء قتل ہوئی</p>	<p>عمیر نے اپنی رشتہ کی بہن کو جو اپنی قوم کو نبی ﷺ کے خلاف جنگ پر اکسایا کرتی تھی چھری سے قتل کر دیا</p>
<p>۵</p>	<p>سریہ ام قرظہ رمضان ۱ھ</p>	<p>ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ</p>	<p>قوم فزارہ زیر سرداری ام قرظہ</p>		<p>زہمی یا اسیر ۲</p>	<p>دشمن کو گنہگار ہوئی</p>	<p>بنو فزارہ نے ام قرظہ کی تحریک سے زید بن حارثہ کے تاجرانہ قافلوں کو لوٹا تھا اس ڈکیتی کی وجہ سے ان کی گرفتاری کی گئی ام قرظہ اور اس کی دختر بھی گرفتار ہوئی تھی باقی سب بھاگ گئے تھے (مسلم)</p>
<p>۵</p>	<p>سریہ مقعدہ رمضان ۵ھ</p>	<p>غالب بن عبداللہ لیثی</p>	<p>اہل مقعدہ</p>			<p>خفیف لڑائی ہوئی</p>	<p>یہ لوگ اہل خیبر کے اتحادی تھے</p>

<p>سیدنا اسامہ معہ ہر ایماں چلے آتے تھے راہ میں ایک شخص پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا سیدھا ان کی طرف آیا اسامہ نے باوجود بگڑے شہادت پڑھنے کے کوار سے مار دیا جس ایک مسلمان مارا گیا</p>	<p>خفیف لڑائی ہوئی</p>			<p>اہل خربہ</p>	<p>اسامہ بن زید</p>	<p>سریع خربہ رمضان ۶ھ</p>	<p>❖</p>
<p>نبی ﷺ نے حکم دیا تھا کہ لکھ رکھ کو جائے اور جب تک کوئی مسلح دستہ مزاحم نہ ہو، پتھرا کا استعمال نہ کیا جائے لکھ رکھ میں مختلف راستوں سے داخل ہو صرف ایک دستہ فوج کی مزاحمت ہوئی نبی ﷺ نے قبضہ شہر کے بعد سب کو عام معافی دی</p>	<p>فتح ہوئی</p>	<p>۱۲ مقتول ہوئے</p>	<p>۲ شہید ہوئے</p>	<p>قریش مکہ</p>	<p>۱۰۰۰۰ نبی کریم ﷺ</p>	<p>غزوة فتح مکہ رمضان المبارک ۵ھ</p>	<p>❖</p>

۸	سریہ خالد رمضان ۵	خالد بن ولید	بت خانہ عزرا				عزری قبیلہ بنو کنانہ کا بت تھا اسے خالد بن ولید نے جا کر توڑ دیا تھا۔
۹	سریہ عمرو بن العاص رمضان	عمرو بن العاص	بنت خانہ سواع				سواع قبیلہ بنو ہزیم کا بت تھا عمرو بن العاص نے توڑا تھا
۱۰	سریہ سعد اشہلی رمضان ۵	سعد بن زید الاشہلی الانصاری	بت خانہ منات				منات قبیلہ اوس اور خزرج کا بت تھا سعد اشہلی نے توڑا تھا

عرب علماء کے فتاویٰ جات

یہاں ہم عرب علماء کے فتاویٰ جات خاص طور پر دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ان علماء کو بہت بصیرت دی ہے۔ جب بھی کسی کو رمضان کے متعلق کوئی نیا اشکال پیش آتا ہے۔ کسی نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جدید شکوک و شبہات سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ فوری طور پر عرب علماء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی شفاف تعلیمات کی روشنی میں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور اس کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں۔

چند اہم فتاویٰ ملاحظہ کریں۔ اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی دعا کریں۔

روزہ رکھنا اور چھوڑنا اقامت والے شہر کے تابع ہوگا

سوال: میں مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہجری مہینہ سعودی عرب کی مملکت سے ایک دن بعد ہوتا ہے اور ہم طالب علم اس سال رمضان کے مہینہ میں اپنے وطن کو سفر کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرو“..... تا آخر حدیث۔

اور ہم نے مملکت سعودیہ میں روزے شروع کئے۔ پھر ہم ماہ رمضان میں اپنے ملک کو جائیں گے اور یہ ممکن ہے کہ ہم رمضان کے آخر تک اکتیس دن روزے رکھیں۔

میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے روزوں کے متعلق کیا حکم ہے اور ہم کتنے دن روزے رکھیں؟

فتویٰ: آپ سعودی عرب میں یا کسی اور جگہ روزے رکھیں۔ پھر باقی ماہ کے روزے اپنے ملک رکھیں تو جب وہاں کے لوگ روزے چھوڑیں تب آپ بھی چھوڑیں، خواہ یہ تیس دن سے زیادہ ہو جائیں۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْإِفْطَارُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ))^۱

۱۔ مسندبزار (۱/۳۸۶) مسند طیالسی (۳۳۹) ابن خزیمہ (۳/۳۳۱)

جس دن تم روزے شروع کرو وہ روزہ کا دن ہے اور جس دن روزے چھوڑو وہ افطار کا دن ہے۔ تاہم اگر تم انتیس دن روزے پورے نہ کر سکو تو تمہارے لئے تیسویں دن کا روزہ ضروری ہے۔ کیونکہ قمری مہینہ ۲۹ دن سے کم کا نہیں ہو سکتا۔

ہوائی سفر میں روزہ کب افطار کریں؟

سوال: ہم رمضان کے مہینہ میں مغرب کی اذان سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل باذن اللہ تعالیٰ ریاض سے ہوائی جہاز کے ذریعہ روانہ ہوئے۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور ہم سعودیہ کی فضاؤں میں تھے۔ تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں۔ جب کہ ہم سورج دیکھ رہے تھے جو خاصا بلند تھا اور ہم فضا میں تھے۔ یا ہم روزہ رکھے رہیں اور اپنے ملک جا کر روزہ چھوڑیں یا ہم محض سعودیہ کی اذان کے وقت کے مطابق روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟

فتویٰ: جب طیارہ ریاض سے بلند ہوا اور مثلاً وہ غروب آفتاب سے پہلے مغرب ہی کی طرف روانہ ہوا تو جب تک سورج غروب نہ ہو آپ روزہ رکھے رہیں گے۔ آپ خواہ فضا میں ہوں یا اپنے ملک میں اتریں سورج غروب ہونے پر ہی آپ روزہ چھوڑیں۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((اِذَا قَبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هُنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) ۱

جب ادھر رات بڑھ آئے اور ادھر سے دن پیچھے ہٹ جائے تو اس وقت روزہ دار روزہ چھوڑے۔ (اس حدیث کی صحت پر شیخین کا اتفاق ہے۔)

جس شخص کو ماہ رمضان ہو جانے کا علم ہی طلوع فجر کے بعد ہو

سوال: آپ سے اس شخص کے حکم کے متعلق سوال ہے جسے ماہ رمضان کے واقع ہو جانے کا

۱ بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب منی یحل فطر الصائم (۱۹۵۴) مسلم۔ کتاب الصیام باب بیان وقت انقضاء الصوم (۱۱۰۰)

علم ہی طلوع فجر کے بعد ہو وہ کیا کرے؟
 فتویٰ: جس شخص کو ماہ رمضان کے ہو جانے کا علم ہی طلوع فجر کے بعد ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ باقی دن ان چیزوں سے پرہیز رکھے جو روزہ نہ ہونے کی صورت میں حلال ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ رمضان کا دن ہے اور مقیم کے لئے جائز نہیں کہ وہ مفطرات میں سے کوئی چیز کھائے۔ لیکن اسے اس روزہ کی قضا دینا ہوگی کیونکہ اس نے فجر سے پہلے روزوں کی رات نہیں گزاری اور نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((من لم یجمع الصیامَ قبلَ طُلُوعِ الفجرِ فلا صیامَ لہ)) ۱

”جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لی اس کا روزہ نہیں۔“

اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے معنی میں اس کے موافق نقل کیا ہے اور یہ عام فقہاء کا قول ہے..... اور اس سے مراد فرضی روزے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے حدیث شریف سے ذکر کیا ہے۔

رہے نفل روزے تو وہ دن کے دوران نیت سے بھی جائز ہیں۔ بشرطیکہ مفطرات سے کوئی چیز نہ کھائی ہو۔ کیونکہ نبی ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔

ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے جو اسے پسند ہو اور ان سے ان کے روزے اور ان کا قیام قبول فرمائے۔ وہ سننے والا ہے قریب ہے.....

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

سوال: میں ہسپتال میں علاج کر رہا ہوں اور ایسی دوا کھا لیتا ہوں جو شدید بھوک کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا میں روزہ چھوڑ دوں یا صبر کیے رہوں؟

میں اپنی عمر کے سولہویں سال میں ہوں اور تقریباً عرصہ پانچ سال سے اب تک مستثنیٰ

۱ ابو داؤد۔ کتاب الصیام۔ باب النیۃ فی الصیام (۲۳۵۴) ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء لا صیام لمن لم یعزم من اللیل (۷۴۰) نسائی۔ کتاب الصیام باب ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصہ..... (۲۳۳۰) ابن ماجہ (۱۷۰۰)

ملک فیصل میں خصوصی علاج کر رہا ہوں۔ پچھلے سال ماہ رمضان میں ڈاکٹر نے حکم دیا کہ میری وریڈ میں کیمیادی علاج دیا جائے اور میں روزہ دار تھا اور یہ علاج بڑا قوی معدہ اور تمام جسم پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ ایک دن جب میں یہ علاج کر رہا تھا تو مجھے سخت بھوک محسوس ہوئی جبکہ ابھی فجر کو تقریباً سات گھنٹے گزرے تھے۔ عصر کے قریب مجھے اتنی درد ہوئی کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں نے مغرب کی اذان تک روزہ نہ چھوڑا..... اور اس سال ماہ رمضان میں ان شاء اللہ ڈاکٹر مجھے یہی علاج کرنے کا حکم دے گا۔ کیا اس دن میں روزہ چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں؟ اور اگر میں روزہ نہ چھوڑوں تو کیا اس دن کی قضا مجھے دینا پڑے گی؟ اور کیا وریڈ میں خون لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اس علاج سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے (روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟) مجھے مطلع فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا

جواب: ماہ رمضان میں مریض کے لئے روزہ نہ رکھنا مشروع ہے جب کہ روزہ اسے نقصان دینا ہو یا اس پر گراں گزرتا ہو یا دن کے وقت اسے علاج کی خاطر گولیاں کھانے یا دوائی پینے کی ضرورت پیش آئے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))

”اور جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔“

کون پسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔^۱

اور ایک دوسری روایت میں کہا

((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِيَ عَزَائِمَهُ))^۲

(”جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ضروری (واجبی) احکام پر عمل کیا جائے) کے

۱۔ مسند احمد (۲/۱۰۸) مسند البزار (۹۸۸۔ الکشف) صحیح ابن خزيمة (۹۵۰) شعب الایمان (۳۸۹۰)

۲۔ صحیح ابن حبان (۳۵۶۸)

الفاظ ہیں۔“

رہی تحلیل یا کسی دوسرے مقصد کے لئے ورید میں خون لینے کی بات تو صحیح قول یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر زیادہ خون لینا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ اسے رات تک مؤخر کر دیا جائے۔ اگر دن کو کرے تو پھر محتاط روش یہ ہے کہ اسے حجامت (پھینچنے لگوانا) کی مانند قرار دے کر اس کی قضاء دے۔

مریضہ ہوں، رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھے، کفارہ کیا ہے؟

سوال: میں ایک شادی شدہ مریضہ ہوں۔ میں نے گزشتہ رمضان میں بعض روزے چھوڑے ہیں اور اپنے مرض کی وجہ سے ان کی قضاء نہیں دے سکتی۔ ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اسی طرح اس سال بھی میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں گی۔ ان کا کفارہ کیا ہوگا؟

فتویٰ: ایسا مریض جس پر روزے شاق ہوں اسے روزہ نہ رکھنا مشروع ہے۔ جب اللہ سے شفاء دے اس کی قضا دے دے جو اس کے ذمہ ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵/۲)

”اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ لہذا اے سالک! آپ پر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے تنگی نہیں اور اس مہینہ میں بھی جب تک مرض باقی ہے روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ روزہ چھوڑنا مریض اور مسافر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے۔ جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔“

آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو مرض سے نجات دے تو پھر ان کی قضاء لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفاء دے اور ہماری اور آپ کی بیماریاں

دور کرے۔

دن کے وقت احتلام ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟

سوال: جب رمضان میں دن کے وقت روزہ دار کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ اس کے روزہ کو باطل کر دے گا یا نہیں؟ اور کیا اس پر جلد غسل واجب ہے؟

فتویٰ: احتلام روزہ کو باطل نہیں کرتا کیونکہ یہ بات روزہ دار کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ البتہ اس صورت میں غسل واجب ہے جبکہ منی لگی ہوئی دیکھ لے۔

اگر اسے نماز فجر کے بعد احتلام ہو اور وہ ظہر کی نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں..... اسی طرح اگر وہ رات کو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور طلوع فجر کے بعد غسل کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ جماع سے جنبی حالت میں صبح کرتے پھر نہاتے اور روزہ رکھتے۔

حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی یہی صورت ہے۔ اگر وہ رات کو پاک ہو جائیں اور طلوع فجر کے بعد نہائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور ان کا روزہ صحیح ہوگا..... لیکن انہیں اور اسی طرح جنبی کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ طلوع آفتاب یا نماز فجر کو مؤخر کرے۔ بلکہ ان سب پر واجب ہے کہ نہانے میں جلدی کریں تاکہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کو اپنے وقت پر ادا کر سکیں۔

اور مرد پر لازم ہے کہ جنابت کے غسل سے جلدی فارغ ہو اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکے..... اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

کیا احتلام، جسم سے خون نکلے اور قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟

سوال: میں نے روزہ رکھا تھا اور مسجد میں سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ مجھے احتلام ہوا ہے۔ کیا احتلام روزہ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ خیال رہے کہ میں نے غسل نہیں کیا اور نہانے کے بغیر ہی نماز ادا کر لی۔

✽ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجھے سر میں پتھر لگا۔ جس سے میرے سر سے خون بہہ نکلا۔ کیا خون بہنے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟

✽ اسی طرح کیا قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ امید ہے آپ مجھے مستفید فرمائیں گے۔

فتویٰ: احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جب منی نکلے تو اس پر غسل جنابت لازم ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب احتلام والا پانی یعنی منی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔^۱

✽ یہ جو آپ نے بلا غسل نماز ادا کی۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور بہت بری بات ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اس نماز کو دہرائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ بھی کریں۔

✽ اور جو پتھر آپ کے سر پر لگا، جس سے خون بہہ نکلا، تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔

✽ اور جو قے آپ کے اندر سے نکلی۔ اس میں بھی آپ کا کچھ اختیار نہ تھا، لہذا آپ کا روزہ باطل نہیں ہوا۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقِضَاءُ))^۲

”جسے بے اختیار قے آئی، اس پر روزہ کی قضاء نہیں اور جس نے عمداً قے کی، اس پر قضاء ہے۔ اس حدیث کو احمد اور اہل سنن نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔

۱۔ ابوداؤد۔ کتاب الطہارۃ۔ باب فی الرجل یجد البلة فی منامۃ (۲۳۶) ترمذی کتاب الطہارۃ باب ما جاء فیمن یتسقیط فیری بلا (۱۱۳) ابن ماجہ کتاب الطہارۃ باب من احتلم ولم یربلا (۶۱۳)

۲۔ ابوداؤد۔ کتاب الصیام۔ باب الصائم یتسقی عمداً (۲۳۸۰) ترمذی۔ کتاب الصوم۔ باب ما جاء فیمن استقاء عمداً (۷۲۰) ابن ماجہ۔ کتاب الصیام باب ما جاء من الصائم یقئ (۱۶۷)

نصف شعبان کے روزوں کا حکم

فتاویٰ: ہر مہینہ میں ان تین دنوں کے روزے مستحب ہیں۔ خواہ یہ شعبان کے ہوں یا کسی اور مہینہ کے۔ جیسا کہ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو ان کا حکم دیا۔ نیز آپ ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ابوالدرداءؓ اور ابو ہریرہؓ کو ان کی وصیت فرمائی اور جو شخص بعض مہینوں میں یہ روزے رکھ لے گا اور بعض میں چھوڑ دے یا کبھی رکھ لے اور کبھی چھوڑ دے تو بھی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ یہ نفل روزے ہیں فرضی نہیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو میسر آسکے تو ہر ماہ ان دنوں کے روزے رکھتا رہے۔

صدقہ فطر کی قیمت؟

سوال: صدقہ فطر کی کیا قیمت ہے؟

فتاویٰ: غالباً اس سے سائل کی مراد رمضان کا صدقہ فطر ہے اس میں واجب شہریا علاقہ والوں کی عام خوراک کا ایک صاع ہے۔ خواہ یہ چاول ہوں یا گندم، کھجور یا اور کوئی غلہ وغیرہ اور یہ صدقہ مسلمانوں کے ہر فرد خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام چھوٹا ہو یا بڑا کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

یہ صدقہ عید کی نماز کی طرف روانگی سے پیشتر ادا کر دینا لازم ہے اور اگر عید سے ایک دو دن پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کلو کے حساب سے اس کی مقدار تقریباً

- ۱۔ بخاری۔ کتاب لاصوم باب صوم الدهر (۱۹۷۶) مسلم کتاب الصیام باب النهی عن صوم الدهر عن تضر بہ (۱۱۵۹)
- ۲۔ مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحی (۷۲۲)
- ۳۔ بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب صیام الیض (۱۹۸۱) مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحی (۷۲۱)

تین کلونتی ہے۔

بے نماز کا روزہ موثر ہے؟

سوال: بعض علماء ایسے مسلمان فرد کو عیب دار بتاتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے، مگر نماز نہیں پڑھتا۔ حالانکہ نماز کا روزے میں کیا دخل ہے جب کہ میں روزہ رکھ کر جنت میں باب الریان کے ذریعے داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں اور یہ بات معلوم ہے کہ روزہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔

فتویٰ: وہ لوگ جو آپ پر نماز نہ پڑھنے اور روزہ رکھنے کے باعث گرفت کرتے ہیں حق پر ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اسلام اس کے بغیر قائم نہیں ہوتا اور نماز کو قصداً چھوڑ دینے والا شخص کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے اور کافر کا روزہ صدقہٴ نخج یا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ﴾

(النوبة: ۱۹ / ۵۳)

”ان لوگوں کے صدقات محض اس وجہ سے قبول نہ کئے گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نہیں آتے نماز کے لئے، مگر سستی کے ساتھ اور نہیں خرچ کرتے، مگر دل کی کراہت کے ساتھ۔“

چنانچہ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ درست نہیں ہے اور یہ آپ کو اللہ کے ہاں فائدہ دے گا نہ اللہ سے قریب کرے گا۔ جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ روزہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو نہیں جانتے جو اس سلسلہ میں وارو

ہوئی ہے۔ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَعْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتِ الْكَبَائِرُ))^۱

”پانچ نمازیں ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ ادا کرنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کی درمیانی مدت میں کئے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے منفعے کو اس چیز سے مشروط کیا ہے کہ اس دوران آدمی کبیرہ گناہوں سے باز رہے مگر جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ آپ غور کریں کہ نماز چھوڑنے سے بڑھ کر کون سا کبیرہ گناہ ہے بلکہ نماز چھوڑنا تو عین کفر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے اور آپ کا روزہ قبول نہیں ہے۔

اے میرے بھائی!..... تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر ڈیجی تو بہ کرو اور وہ نماز جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو پھر اس کے بعد روزہ رکھو اسی لئے جب نبی اکرم ﷺ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ان سے فرمایا کہ:

((لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ))^۲

۱۔ صحیح مسلم 'الطہارۃ' باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان..... (ح: ۲۳۳) واللفظ لا حمد ۲/۳۰۰

۲۔ صحیح البخاری 'المغازی' باب بعث ابی موسیٰ ومعاذ الی الیمن قبل حجة الوداع' ح: ۲۳۳۷۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدعاء الی الشہادتین (ح: ۱۹)

”سب سے پہلے لوگوں کو توحید الہی اور میری رسالت کے اقرار کی دعوت دینا اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔“

اس طرح آپ نے کلمہ شہادت کے بعد نماز کو رکھا پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔

میں مرگی کے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا

سوال: مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے۔ جس وجہ سے میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دن میں تین مرتبہ دوائی استعمال کرنا ہوتی ہے۔ میں نے دو دن روزہ رکھا مگر اس کو پورا نہیں کر سکا۔ میں ریٹائرڈ ہوں اور مجھے بطور پنشن محض ۸۳ دینار ماہوار ملتے ہیں۔ میری بیوی بھی ہے اور پنشن کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں شرع کا میرے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر میں رمضان میں تیس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکوں تو وہ کتنی رقم ہے جو مجھے ادا کرنی ہے؟

فتویٰ: آپ نے جس مرض کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں امید کی جاسکتی ہے کہ کسی دن ان شاء اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ انتظار کریں یہاں تک کہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ پھر آپ روزہ رکھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”اور جو کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں کتنی پوری کرے (یعنی اس دوران جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو رکھ لے)

لیکن اگر یہ مرض مستقل ہے جس سے صحت یابی کی امید نہیں ہے۔ تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور ایسا کرنا جائز ہے کہ ایک دن دوپہر یا شام کا کھانا بنائیں اور رمضان کے دنوں کے برابر مسکین کو بلائیں اور کھانا کھلا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اتنی بھی طاقت۔ اللہ کے فضل سے۔ نہ رکھتا ہو اور اگر آپ ایک ہی مرتبہ ایک ماہ میں اتنے آدمیوں کو

کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ ان میں بعض کو اس ماہ میں کھانا کھلا دیں اور بعض کو دوسرے مہینوں میں حسب استطاعت کھلا دیں۔

والد کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں

سوال: کیا میرے لئے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا مال اپنے ان بہن بھائیوں کو دینا جائز ہے جو ابھی کماتے نہیں ہیں جن کی تربیت میرے والد کی وفات کے بعد میری والدہ کرتی ہیں۔ اور کیا اپنے ان بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو چھوٹے تو نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مال کے محتاج ہیں اور غالباً ان کی ضرورت ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جن کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔

فتویٰ: اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دینا افضل اور بہتر ہے۔ بجائے ان لوگوں کے جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ کیونکہ اپنے قریبی پر صدقہ کرنا (دوہرا اجر ہے) صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ لیکن اگر ایسے عزیز ہیں جن پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی اور اگر تو ان کو اس وجہ سے زکوٰۃ دے کہ جو پہلے ان پر خرچ کر رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، کیا روزہ رکھے؟

سوال: ایک خاتون جو دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت کی ہے اس لئے کہ روزہ رکھنے کے باعث اس کی صحت کو مزید نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ خاتون گزشتہ سال روزے رکھتی رہی ہے اور اس سال بھی روزے رکھ رہی ہے، مگر وہ روزہ رکھنے کے بعد دن بھر سوتی ہے۔ صرف نمازوں کے اوقات میں بستر سے اٹھتی ہے اور نماز پڑھ کر پھر سو جاتی ہے اگر وہ ایسا کرے (دن بھر سوتی رہے) تو اس کی بیماری میں اضافے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ تو کیا اس حال میں اس کا روزہ رکھنا درست ہے؟ یہ خیال رہے کہ پچھلے

سال اس خاتون نے تمام روزے رکھے تھے اور ماہواری کے پانچ ایام کے دوران اس نے روزہ نہیں رکھا، مگر بعد میں ان کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔

فتویٰ: ایسی صورت میں جب کہ کسی مریض کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہو یا روزہ اس کی بیماری میں اضافے کا یا شفاء میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہو تو مریض کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے بلکہ اس حالت میں اس کے لئے روزہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵/۲)

”(اے مسلمانو!) جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو (چھوڑے ہوئے روزوں کی) گنتی دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) پوری کرے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔“

چنانچہ اگر اس بیماری کو جاننے والے دو مسلمان ڈاکٹر (یا حکیم) یہ رائے دے دیں کہ اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنا مریض کے لئے نقصان کا باعث ہوگا تو مریض کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر مریض یا مریضہ آرام کر کے یا سو کر روزہ برداشت کر سکتا ہو جیسا کہ مذکورہ خاتون کرتی ہے تو چونکہ اس طرح روزہ رکھنے سے اس کے مرض کی علامات میں اضافہ نہیں ہوتا اس لئے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ ہاں اگر اس خاتون کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کے جاری رہنے یا اس میں اضافہ کا خدشہ ہو تو اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہئے اور اللہ کی عطا کردہ رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ بعد میں اگر وہ روزوں کی قضاء کی طاقت رکھتی ہو تو ایسے دنوں میں جب اس کی بیماری میں کمی واقع ہو جائے یا سردی کے موسم کے چھوٹے دن ہوں تو اس کو چھوڑے ہوئے روزے رکھنے چاہئیں اگر وہ خود روزے نہ رکھ سکے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد (تقریباً ۶۰۰ گرام) گیہوں یا آدھا صاع (تقریباً سوا کلو گرام) کھجوریں کفارے

کے طور پر دی جائیں گی اور یہی کفارہ ان ایام کے روزوں کا بھی دیا جائے گا جو اس نے حیض کے دنوں میں پچھلے سال چھوڑ دیئے تھے۔

نو جوان دوشیزہ پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟

سوال: نو جوان لڑکی پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟

فتویٰ: ایک لڑکی پر روزہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ سمجھ داری کی عمر کو پہنچ جائے اور پندرہ برس کی عمر مکمل ہونے پر وہ جوان ہو جائے یا شرمگاہ کے گرد سخت بال اگ آئیں یا منی خارج ہونے لگ جائے یا حیض آنا شروع ہو جائے اگر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی ظاہر ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا اگرچہ وہ دس برس ہی کی لڑکی کیوں نہ ہو اکثر لڑکیوں کو دس گیارہ برس کی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کو کم عمر سمجھ کر اس سے روزہ رکھوانے میں سستی کرتے ہیں اور یہ غلطی ہے کیونکہ لڑکی کو جب حیض آ جاتا ہے تو وہ عورتوں کے درجہ میں شمار ہوتی ہے اور اس پر احکام شرعی کا اجرا ہو جاتا ہے۔

کم عمر بچوں کے روزے کا ثواب والدین کو ملتا ہے

سوال: کم عمر بچوں کے روزے کی درستی کی کیا شرائط ہیں؟ اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس کے

روزے کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا؟

فتویٰ: والدین کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں روزے رکھنے کا عادی بنائیں۔ اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ اگرچہ ان کی عمر دس برس سے بھی کم ہو اور جب ان میں سے کوئی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو روزہ رکھنے پر مجبور کریں اور اگر کوئی بچہ روزہ رکھے تو اس کے لئے بھی بڑوں کی طرح ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو روزہ کو خراب کرنے والی ہوں جیسا کہ کسی چیز کا کھانا اور اسی طرح دوسری نقصان دہ چیزیں۔ جہاں تک اس روزے کے ثواب کا تعلق ہے تو

ثواب بچے کو بھی ملے گا اور اس کے والدین کو بھی۔

دوسرے ملک میں دیکھا گیا چاند یہاں بھی معتبر ہوگا؟

سوال: اگر کسی ایک ملک میں مسلمان رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیں تو کیا اس بناء پر دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر روزہ رکھنا واجب ہوگا؟

فتویٰ: مختلف ملکوں میں چاند طلوع ہونے کے اوقات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں ہم شک نہیں کرتے اور اس اختلاف کی بنا پر علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگوں کے لئے اسی ملک میں چاند کے نظر آنے کا اعتبار کیا جائے گا جب کہ مختلف ممالک میں نظام الاوقات کا فرق ظاہر ہو۔ اس پر دلیل کے طور پر وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام کریب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ شام میں تھے تو رمضان المبارک شروع ہو گیا تو اہل شام نے جمعہ المبارک کے دن روزہ رکھا، مگر مدینہ منورہ میں ہفتہ کی رات ہی کو چاند دیکھا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کریب نے خبر دی کہا: امیر معاویہ اور شام والوں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا تھا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ہم نے تو ہفتہ کے دن روزہ رکھا ہے اور ہم اس وقت تک روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لیں۔ یا پھر تیس روزے پورے نہ کر لیں۔ جیسا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔^۱

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جن ممالک میں چاند دیکھا گیا اور جو ممالک ان سے آگے یعنی مغرب کی جانب ہوں ان سب پر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب کسی ایک ملک میں چاند دیکھا گیا ہو تو ضروری ہے کہ اس سے بعد والے ممالک میں بھی چاند نظر آئے گا، اس لئے کہ چاند سورج کے بعد غروب ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس میں تاخیر ہوگی چاند سورج سے دور ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ واضح اور ظاہر ہوتا

۱۔ مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب بیان ان لكل بلد رؤیتهم (ح ۱۰۸۷)

چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بحرین میں چاند دیکھا گیا تو ان ممالک کے لوگوں پر بھی روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا جو اس کے بعد ہیں جیسا کہ نجد، حجاز، مصر اور مغرب مگر جو ممالک بحرین سے پہلے واقع ہیں مثلاً: ہندوستان، سندھ اور ماوراء النہر (بالائی روس) کے ممالک ان ملکوں کے لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔

روزوں کی قضاء دینے سے قبل ہی موت آگئی، کیا کریں؟

سوال: ایک خاتون نے شرعی عذر کی بنا پر رمضان المبارک کے بعض ایام کے روزے چھوڑے مگر ان کی قضاء سے پہلے ہی اس کو موت آگئی تو کیا اس پر کوئی گناہ باقی رہے گا اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟

فتویٰ: اگر کسی انسان نے بیماری کے باعث روزے ترک کئے اور وہ بیماری رمضان المبارک کے بعد اس کی وفات تک جاری رہی تو اس کے وارثوں پر کوئی قضاء یا کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ متوفی کو قضاء کا موقع ہی نہیں ملا لیکن اگر وہ شفاء یاب ہو گیا اور اس کے بعد کچھ دن گزر گئے جن کے دوران اس کے لئے روزہ رکھنا ممکن تھا، مگر اس سے سستی ہو گئی تو قضا جو اس کے ذمہ تھی وہ اس کے وارث ادا کریں گے اور ان روزوں کا کفارہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔

روزہ دار بیوی سے جماع کرنے والے پر کیا کفارہ ہوگا؟

سوال: ایک شخص حالت سفر میں تھا اس کو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل تھی اس نے اپنی روزہ دار بیوی سے جماع کر لیا تو کیا اس شخص پر اس فعل کا کوئی کفارہ ہوگا اور عورت کے اس گناہ کا کفارہ کس طرح ادا ہوگا باوجود اس کے کہ اس کو خاوند کی طرف سے اس فعل کے لئے مجبور کیا گیا تھا؟

فتویٰ: میری رائے میں اس شخص پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ جب وہ حالت سفر میں تھا تو اس کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز تھا، پس جب اس کے لئے دن کے وقت کھانا جائز تھا

تو بیوی کے ساتھ جماع بھی جائز تھا اور اگر عورت روزہ دار تھی تو اس کے لئے بھی حالت سفر میں روزہ کھول لینا جائز تھا۔ خصوصاً اس حال میں جب کہ وہ شوہر کی طرف سے مجبور کر دی گئی تو اس اعتبار سے اس پر بھی کوئی گناہ یا کفارہ نہیں ہے۔

قضاء دینے میں کئی سال گزر گئے، کیا کروں؟

سوال: میں ایک سترہ سالہ لڑکی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے ابتدائی دو سالوں کے دوران رمضان المبارک کے جو روزے عذر کی بنا پر چھوڑے تھے ان کی قضا ابھی تک نہیں کر سکی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟

فتویٰ: آپ پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد قضا کریں چاہے وقفے وقفے سے کریں اور ہر روزے کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور علماء کی اکثریت کی رائے کے مطابق یہ کفارہ اس لئے ضروری ہے کہ قضا میں ایک سال سے زیادہ کی تاخیر کی گئی ہے۔

ٹینک لگوانا اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا

سوال: میں نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں وریڈی انجکشن لگوا یا تھا تو کیا اس دن کا روزہ صحیح شمار ہوگا یا مجھ پر اس کی قضا واجب ہے؟

فتویٰ: اگر یہ انجکشن جسم کو غذا یا طاقت فراہم کرنے والا ہے تو یہ روزے کو توڑ دیتا ہے چاہے یہ وریڈ میں لگے یا جسم کے کسی اور حصے میں۔

سوال: کیا میرے لئے جائز ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کروں اور اگر یہ جائز ہو تو کیا برش کے استعمال کے دوران نکلنے والے خون کے باعث روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتویٰ: روزہ رکھنے کے بعد دانتوں پر پانی، مسواک یا برش استعمال کرنے میں کوئی حرج

نہیں گو کہ بعض علماء نے روزہ دار کے لئے زوال کے بعد مسواک کے استعمال کو مکروہ سمجھا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے منہ کی متغیر بو کو زائل کر دیتا ہے (جو اللہ کو بہت پسند ہے) مگر صحیح یہ ہے کہ مسواک کا استعمال دن کے پہلے اور آخری سبھی حصوں میں جائز ہے اور اس کا استعمال روزے دار کے منہ کی متغیر بو کو زائل نہیں کرتا بلکہ وہ تو صرف دانتوں کو اور منہ کو بوگندگی اور کھانے کے بچے ہوئے اجزا سے صاف کرتا ہے۔ جہاں تک نوتھ پیسٹ کے استعمال کا سوال ہے تو اس کا مکروہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس میں ایک خاص بو اور ذائقہ ہوتا ہے جو بعض اوقات لعاب دھن میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو نکلنے سے بچا نہیں جاسکتا، تو جس شخص کے لئے اس کا استعمال ضروری ہو اس کو چاہئے کہ اس کو سحری کھانے کے بعد طلوع فجر سے پہلے استعمال کرے اور اگر دن کے وقت اس احتیاط کے ساتھ استعمال کر لے کہ لعاب دھن کو نکلنے سے بچ سکے تو ضرورت کے پیش نظر اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر برش کے استعمال کے دوران مسواک کرتے ہوئے یا وضوء کرتے ہوئے دانتوں سے معمولی مقدار میں خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دینا، روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟

سوال: کیا رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دینا درست ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتویٰ: جب کوئی شخص خون کا عطیہ دے اور اس کے جسم کا کافی سارا خون نکالا جائے تو اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو چھپنے لگانے پر قیاس کیا جائے گا، جو کہ خون کی نالیوں سے کافی خون کسی مریض کو بچانے یا ناگہانی صورتوں کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر نکالا جائے، تاہم اگر قلیل مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ لیبارٹریوں میں تجزیہ اور ٹیسٹ وغیرہ کے لئے سرنج کے ذریعے خون کی کچھ مقدار نکالی جاتی ہے۔

ہنڈیا سے پکنے کی حالت جاننے کے لیے چکھنا کیسا ہے؟

سوال: کیا کھانا پکانے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کھانے کی حالت جانچنے کے لئے اس میں سے چکھ لے؟

فتویٰ: کھانا پکانے والے کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زبان کے ایک کنارے کے ذریعے کھانے میں مٹھاس، نمک یا دوسرے ذائقے معلوم کرنے کے لئے تھوڑا سا چکھ لے، مگر وہ اس میں سے کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اترنے دے بلکہ وہ چکھی ہوئی چیز کو باہر نکال دے اور کلی کرے اس طریقے سے اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

..... اب حائضہ عورت کیا کرے؟

سوال: اگر کوئی عورت اذان فجر کے فوراً بعد حیض سے پاکیزگی حاصل کر لے تو کیا وہ اسی وقت سے کھانا پینا بند کر کے اس دن کا روزہ رکھ لے یا اس پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہوگی؟

فتویٰ: اگر اس کا خون طلوع فجر کے وقت یا اس سے ذرا قبل بند ہو گیا تو اس کا روزہ اس دن میں درست ہو گا اور فرض ادا ہو جائے گا اگرچہ وہ صبح ہونے کے بعد غسل کرے۔ تاہم اگر اس کا خون صبح ہونے کے بعد بند ہوا تو اس صورت میں اس کا کھانا پینا بند کرنا روزہ شمار نہ ہو گا بلکہ وہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد اس کو قضا کے طور پر رکھے گی۔

سوال: کیا شوال میں چھ دنوں شوال کے بعد روزے رکھنا ضروری ہے؟ کے روزے رکھنا ایک ضروری امر ہے اور کیا ان روزوں کے بغیر رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب مکمل نہیں ہوتا؟

فتویٰ: شوال میں چھ روزے رکھنا سنت مبارکہ ہے اور اس سلسلہ میں کئی احادیث وارد

ہوئی ہیں جیسا کہ نبی ﷺ کا یہ فرمان:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))
 ”جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ
 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔“

اس لئے علماء کرام کی اکثریت نے اس کو مستحب (باعث فضیلت) کہا ہے اور کسی
 نے بھی اس عمل کو فرض نہیں کہا بلکہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ جو شخص فضیلت کا طالب ہو یہ روزے
 رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک سال رکھے اور دوسرے
 سال چھوڑ دے اور اس کے نہ کرنے سے رمضان المبارک کے روزوں کے اجر پر کوئی اثر
 نہیں پڑتا اور شوال کے یہ روزے مہینہ کی ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں رکھے جاسکتے
 ہیں۔

جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا

سوال: کیا کسی شخص کا جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے جبکہ جنابت کی یہ
 حالت پیدا ہونے میں اس کا ارادہ شامل نہ ہو؟

فتویٰ: حدیث پاک میں ہے کہ نبی ﷺ مجامعت کے بعد حالت جنابت میں فجر کو اٹھتے
 پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ چونکہ جنابت سے غسل کرنا نماز کی درستگی کے لئے
 ضروری ہے اس لئے واجب غسل کو نماز فجر کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں، لیکن
 اگر کسی شخص پر نیند غالب آگئی اور وہ حالت جنابت میں تھا اور چاشت کے وقت
 کے قریب ہی بیدار ہو سکا تو وہ جس وقت بیدار ہوا اسی وقت غسل کر کے نماز فجر ادا
 کر لے اور اپنے روزے کو جاری رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ دار دن کے وقت

۱۔ صحیح مسلم، الصیام، باب استحباب صوم ستہ ایام من شوال، ح: ۱۶۳

۲۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، ح: ۱۹۳۰

صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صحتہ صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنب، ح: ۱۱۰۹

سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا تو وہ اٹھ کر غسل کرے اور نماز ظہر یا عصر جس کا وقت ہو ادا کرے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔

روزوں کی قضاء کو سردیوں تک مؤخر کر سکتے ہیں؟

سوال: کیا رمضان المبارک میں رہ جانے والے روزوں کی قضا کو سردی کے موسم تک مؤخر کیا جاسکتا ہے؟

فتویٰ: رمضان المبارک میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا طاعت حاصل ہو جانے اور عذر شرعی کے دور ہو جانے کے فوراً بعد ضروری ہے اور ان میں تاخیر صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بیماری، سفر یا موت کا امکان ہو۔ لیکن اگر کسی نے سردی کے موسم (چھوٹے دنوں کی آمد) تک تاخیر کر لی تو یہ بہر حال ادا ہو جائیں گے اور جو فرض اس کے ذمے تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔

گزرے ہوئے سالوں کے روزوں کی قضاء کیسے دوں؟

سوال: میں تیس برس کا نوجوان ہوں اور میرے والد نے مجھے پندرہ برس کی عمر ہی میں روزے کی ترغیب دی اور میں اس وقت کبھی روزہ رکھ لیتا اور کبھی چھوڑ دیتا کیونکہ میں روزہ کے حقیقی مفہوم سے نا آشنا تھا لیکن بالغ اور زیادہ شعور ہونے کے بعد میں نے ہر سال رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیئے اور الحمد للہ میں نے کسی رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا گزرے ہوئے سالوں کے روزوں کی قضا میرے اوپر واجب ہے اور کتنی مدت کے روزے رکھنا میرے لئے ضروری ہے؟ یہ خیال رہے کہ میں نے اٹھارہ برس کی عمر سے باقاعدہ روزے رکھنا شروع کئے تھے۔

فتویٰ: جب انسان پندرہ برس کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس پر دینی فرائض کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس عمر کو پہنچ جانا بالغ ہو جانے کی علامت ہے۔ پس یہ شخص

جس نے بالغ ہونے کے بعد روزے رکھنے میں سستی کی ہے اس نے ایک فرض کو ترک کیا ہے۔ چنانچہ اس پر چھوڑے ہوئے ایام کی قضاء واجب ہے جو اس نے ان تمام رمضان کے مہینوں کے دوران چھوڑے جو اس کی توبہ سے پہلے گزرے ہیں اور اس کا عذر اس بناء پر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس شرعی حکم سے ناواقف تھا لہذا اس پر تمام چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑے ہوئے روزوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو وہ احتیاط اور اندازے کے ساتھ روزے رکھ لے۔ یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے ذمے جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔

روزہ رکھنے کے لیے ماہواری روکنے والی گولیاں کھا سکتی ہوں

سوال: کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری حصے میں ماہواری کو روکنے والی گولیاں کھالوں تاکہ میں باقی دنوں کے روزے بھی مکمل کر سکوں؟

فتویٰ: اگر نیت نیک عمل کرنے کی ہو تو حیض کو روکنے والی دوائی کھالینا جائز ہے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ وقت مقررہ پر روزے رکھ سکیں اور نماز باجماعت ادا کر سکیں جیسا کہ نماز تراویح وغیرہ اور یہ کہ فضیلت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کر سکیں تو اس ارادے سے یہ گولیاں کھالینے میں کوئی حرج نہیں اور اگر آپ کا ارادہ صرف یہ ہو کہ میں روزے مکمل کر لوں تاکہ میرے ذمے روزوں کا فرض بہر حال ادا ہو جائے گا۔

روزے کی حالت میں خفیہ عادتِ بد کا مرتکب کفارہ دے گا؟

سوال: میں ایک ۱۹ سالہ نوجوان ہوں اور ایک مشکل میں مبتلا ہوں اور وہ یہ کہ میں مشت زنی کی عادت کا شکار ہوں اور روزانہ تقریباً چار مرتبہ یہ فعل کرتا ہوں یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دوران بھی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کیا اس وجہ سے

میرے اوپر کوئی کفارہ لازم ہے یا نہیں؟

فتویٰ: ہم آپ کو صبر کرنے کی اور صبر کی مشق کرنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ یہ فعل شریعت کے حکم کی رو سے حرام ہے۔ مگر یہ زنا سے کم درجے کا گناہ ہے۔ بعض علماء سلف نے ایسے شخص کے لئے جس سے زنا یا لواطت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کی گنجائش رکھی ہے جب کہ اس کی شہوت کسی اور طریقے سے نہ ٹوٹ رہی ہو۔ ورنہ ہم آپ کو روزے رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں جن کی طرف نبی ﷺ نے ایسے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی ہے جو نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ شادی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ نگاہ کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مددگار ہے تو آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں وہ ساری شادی کروانے کے لئے صرف کریں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عادت بد سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ جہاں تک رمضان المبارک کے دوران اس بری عادت کے ارتکاب کا تعلق ہے تو یہ روزہ کو خراب کرنے والی تو ہے مگر اس کے باعث کفارہ لازم نہیں آتا۔ پس تمہیں چاہیے کہ ان ایام کے روزوں کی قضا کر لیں جن کو آپ نے اس بری عادت سے پچھلے سال اور اس سال خراب کیا ہے اور پچھلے سال کے روزوں کی قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں کیونکہ توبہ پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

پسینہ کی بو دور کرنے والی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں؟

سوال: رمضان المبارک میں عطر اور پسینہ کی بو دور کرنے والی اشیاء کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟

فتویٰ: روزے کی حالت میں کپڑے اور بدن پر خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پاؤڈر وغیرہ کا استعمال اور غسل کرنا جائز ہے جب کہ پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے۔

سوال: روزے کی حالت میں برش کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

کیا جلد کو نرم رکھنے والے لوشنوں کا استعمال روزے کے لئے نقصان دہ ہے جب کہ یہ لوشن ایسی قسم کے ہوں جو جلد تک پانی کا اثر نہ پہنچنے دیں؟

فتویٰ: روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے استعمال میں کوئی حرج نہیں، مگر اس پیسٹ کو پیسٹ میں داخل ہونے سے روکنا ضروری ہے اس عمل کو سواک کے استعمال پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ وہ دانتوں اور منہ کی ناگوار بو سے صفائی کے لئے مستحب ہے۔

روزے کی حالت میں ایسے لوشن اور تیل کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ وہ صرف جلد کے بیرونی حصے پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں اور جسم کے اندر نفوذ نہیں کرتے تاہم اگر وہ کسی قدر مسامات کے اندر داخل بھی ہو جائیں تو روزہ کو توڑنے والے شمار نہ کئے جائیں گے۔

ریڈیو سے اعلان سن کر روزہ افطار کر دیا

سوال: رمضان میں ایک دن اناؤنسر نے ریڈیو سے یہ اعلان کیا کہ اب سے دو منٹ بعد اذان مغرب ہوگی لیکن محلہ کی مسجد کے مؤذن نے اسی لمحہ میں اذان دینا شروع کر دی تو ان دونوں میں سے کس کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے؟

فتویٰ: اگر مؤذن غروب آفتاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اذان کہتا ہو اور وہ قابل اعتماد ہو تو ہم مؤذن کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ واقع محسوس یعنی غروب آفتاب کا مشاہدہ کر کے اذان کہتا ہے اور اگر وہ سورج دیکھنے کے بجائے محض گھڑی دیکھ کر اذان کہتا ہو تو پھر ظن غالب یہ ہے کہ ریڈیو کا اعلان زیادہ صحیح ہے کیونکہ گھڑیوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں لہذا ریڈیو کے اعلان کی پیروی زیادہ بہتر ہے۔

جن ممالک میں سورج بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے

سوال: ہمارے ملک میں سورج شام کو ساڑھے نو یا ساڑھے دس بجے غروب ہوتا ہے تو ہم کس وقت افطار کریں؟

فتویٰ: آپ اسی وقت افطار کریں گے جب سورج غروب ہوگا۔ جب تک آپ کے ہاں دن رات کا دورانیہ چوبیس گھنٹوں پر مشتمل ہوگا روزہ فرض ہوگا خواہ دن کتنا ہی لمبا ہو۔

دن کے وقت ٹوتھ پیسٹ کا استعمال

سوال: کیا روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے؟

فتویٰ: اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ یہ احتیاط کی جائے کہ اسے نگلنے نہ پائے۔ جس طرح روزہ دار کے لیے دن کے ابتدائی اور آخری حصہ میں مسواک کرنا جائز ہے اسی طرح ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ بعض اہل علم نے زوال کے بعد مسواک کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے مگر یہ ایک مرجوح قول ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ کسی وقت بھی مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ نبی ﷺ کے اس ارشاد کے عموم کا یہ تقاضا ہے:

((السُّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ))^۱

”مسواک کرنا منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب کے راضی ہونے کا سبب ہے۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے:

((لَوْلَا اَنْ اَشَقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَا مَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))^۲

۱ سنن النسائی 'الطهارة' باب الترغيب في السواك' ح: ۵

۲ صحيح البخارى 'الجمعة' باب السواك يوم الجمعة' ح: ۸۴ و صحيح مسلم 'الطهارة'

باب السواك' ح: ۲۵۲

”اگر امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔“

ہر نماز میں تو ظہر اور عصر بھی شامل ہیں اور یہ زوال کے بعد ہیں۔ (لہذا معلوم ہوا کہ زوال کے بعد مسواک کرنا بھی مکروہ نہیں)

ایسے تیل کا استعمال جو پانی جلد تک پہنچنے سے نہ روکے

سوال: کیا کسی ایسے تیل وغیرہ کا استعمال روزے دار کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے جو جلد کو چکنا تو کرے لیکن جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے؟

فتویٰ: روزے کی حالت میں بوقت ضرورت جسم پر تیل لگانے کا کوئی حرج نہیں کیونکہ تیل سے جلد کا صرف اوپر کا حصہ تر ہوتا ہے اور تیل جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا اور اگر یہ مساموں سے اندر داخل ہو بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

کیا بالوں کو مہندی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال: کیا نماز و روزہ کی حالت میں بالوں کو مہندی لگانا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے مہندی کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتویٰ: یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں مہندی کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سرمہ کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سرمہ کے استعمال سے اور کان یا آنکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سر پر مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس سے روزے کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

دوران نماز مہندی کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے تو معلوم نہیں کہ اس سوال سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جس عورت نے نماز پڑھنا ہوگی اس کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ مہندی لگائے (کیونکہ اس طرح اس کا سر ننگا ہوگا)۔ شاید سوال سے یہ مراد ہو کہ اگر مہندی لگی ہو تو کیا اس سے وضوء ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہندی کے استعمال سے وضوء کی

صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مہندی کے استعمال سے جسم پر کوئی ایسی تہ نہیں بیٹھتی جو جلد تک پانی پہنچنے میں حائل ہو کیونکہ مہندی کے استعمال سے جسم پر صرف رنگ ظاہر ہوتا ہے جبکہ وضوء پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے جس کا ایسا وجود ہو جو جلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنے لہذا اگر کوئی ایسی چیز استعمال کی ہو تو ضروری ہے کہ اسے وضوء کرنے سے پہلے دور کر دیا جائے تاکہ وضوء صحیح ہو سکے۔

رمضان میں دن کے وقت خوشبو کا استعمال

سوال: روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے وقت عطریات کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟

فتویٰ: رمضان میں دن کے وقت عطریات کے استعمال کرنے اور انہیں سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہاں البتہ بخور (خوشبودار دھونی) کو نہیں سونگھنا چاہیے کیونکہ اسے سونگھنے سے دھواں معدے تک پہنچ جاتا ہے۔

رمضان میں خوشبو اور دھونی کا استعمال

سوال: کیا رمضان میں دن کے وقت خوشبو مثلاً عطر، عود، کولون اور صندل وغیرہ کی دھونی کا استعمال جائز ہے؟

فتویٰ: ہاں خوشبو کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ (صندل وغیرہ کی) دھونی کو نہ سونگھے۔

آنکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنا

سوال: رمضان میں دن کے وقت اگر آنکھوں میں دوائی کا قطرہ ڈال لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

فتویٰ: صحیح بات یہ ہے کہ دوائی کے اس قطرے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس مسئلہ میں اگرچہ اہل علم میں اختلاف ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر اس قطرے کا ذائقہ حلق تک

پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آنکھ کا معدہ کی طرف راستہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص حلق میں ذائقہ آجانے کی وجہ سے احتیاطاً اور اختلاف سے بچنے کے لیے تضادے لے لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ دوائی کا قطرہ آنکھ میں ڈال لیا جائے یا کان میں۔

رمضان میں دن کے وقت ٹیکہ لگانا

سوال: کیا رمضان میں دن کے وقت ٹیکہ لگانا روزے پر اثر انداز ہوتا ہے؟
فتویٰ: ٹیکے کی دو قسمیں ہیں (۱) جو غذائی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے معنی ہی میں ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نصوص شریعت جس معنی پر مشتمل ہوں وہ معنی جس صورت میں بھی پایا جائے تو اس پر ان نصوص کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے (۲) وہ ٹیکہ جو غذائی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس پر نص کا لفظی یا معنوی طور پر اطلاق نہیں ہوتا یعنی نہ یہ کھانا پینا ہے اور نہ کھانے پینے کے معنی میں ہے اور اصول یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک صحیح ہے جب تک کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے شرعی دلیل کے تقاضے کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔

دمہ کے مریض کا دوا سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال: دمہ کے مریض ناک کے ذریعے دوائی سونگھ کر استعمال کرتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

فتویٰ: دمہ کی دوا جسے مریض ناک کے ذریعے سونگھ کر استعمال کرتا ہے وہ دوا ہوا کی نالی کے ذریعے پھیپھروں تک پہنچ جاتی ہے معدہ تک نہیں پہنچتی۔ دوا کا اس طرح استعمال نہ

کھانا پینا ہے اور نہ یہ کھانے پینے کے مشابہ ہے بلکہ یہ تو دوا کے اس قطرہ کے مشابہ ہے جسے آکہ تقاسل میں ڈالا جاتا ہو نیز یہ مختلف زخموں پر رکھی جانے والی دوا سرمہ اور اس ٹیکہ وغیرہ کے مشابہہ ہے جس سے دوا دماغ یا بدن میں منہ اور ناک کے راستہ کے علاوہ کسی اور طریقہ سے پہنچتی ہے۔ ان اشیاء کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے بعض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض سے نہیں ٹوٹتا جب کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کا نام کھانا پینا نہیں ہے لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان اشیاء سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ان کو کھانے پینے کے حکم میں سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک چیز اپنے اختیار سے پیٹ میں جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((بَالِغٌ فِي الْأَسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا))^۱

”خوب مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرو الا یہ کہ تم روزے دار ہو۔“

تو اس حدیث میں روزہ دار کو مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرنے سے اسی لیے تو منع کیا گیا ہے کہ پانی اس کے حلق یا معدہ تک نہ چلا جائے کیونکہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو اپنے اختیار سے پیٹ میں جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

جن علماء کی یہ رائے ہے کہ ان اشیاء کے استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم نوا شامل ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان اشیاء کا کھانے پینے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہر اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو دماغ یا بدن تک پہنچے یا کسی بھی جسمانی راستے (مساموں)

۱ سنن ابی داؤد الصیام، باب الصائم یصب علیہ الماء..... الخ، ج: ۲۳۶۶، وجامع الترمذی

ج: ۴۸۸، و سنن ابن ماجہ، ج: ۴۰۷، و سنن النسائی، ج: ۸۷

سے اندر داخل ہو کر پیٹ تک پہنچ جائے شریعت نے ان اوصاف میں سے کسی وصف کے بارے میں بھی یہ حکم بیان نہیں کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اسے مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرتے ہوئے پانی کے حلق یا معدہ تک پہنچ جانے کے ہم معنی قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے پانی تو غذا ہے لہذا جب وہ حلق یا معدہ تک پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا خواہ وہ منہ کے راستہ داخل ہو یا ناک کے کیونکہ ان میں سے ہر ایک راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ مبالغہ کے بغیر محض کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ منہ کا راستہ ناک تو ایک عام وصف ہے جس کی کوئی تاثیر نہیں لہذا جب پانی وغیرہ ناک سے پہنچ جائے تو اس کا حکم یہی ہے جس طرح منہ سے پہنچنے کا حکم ہے پھر ناک اور منہ برابر ہیں اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعہ اس دوا کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کیونکہ یہ کسی طرح بھی کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

روزے دار کا سینگی لگوانا اور اس سے خون نکلنا

سوال: حدیث میں ہے ”أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ“ (سینگی لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا) کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟

فتویٰ: یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے امام احمد اور کئی دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار جب کسی دوسرے کو سینگی لگائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اگر اسے کوئی سینگی لگائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا کیونکہ سینگی میں دو ہی آدمی ہوتے ہیں ایک سینگی لگانے والا اور دوسرا لگوانے والا۔ مجھوم اس کو کہتے ہیں جس کا خون نکالا گیا ہو اور حاجم اسے کہتے ہیں جس نے خون نکالا ہو۔ اگر روزہ فرض ہو تو پھر سینگی لگوانا جائز نہیں الا یہ کہ اس کی شدید ضرورت ہو مثلاً: فشار خون (خون کا دباؤ) بڑھ جانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو تو پھر سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایک

اضطراری صورت ہوگی، اس دن کی اسے قضا دینا ہوگی، سیٹگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ گیا، لہذا وہ دن کے باقی حصہ میں کھانی سکتا ہے کیونکہ جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ توڑے اس کے لیے دن کے باقی حصہ میں کھانا پینا جائز ہے کیونکہ اس دن روزہ توڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شرعی دلائل کے تقاضا کے مطابق اب اس کے لیے کھانے پینے سے رک جانا واجب نہیں ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مناسبت سے یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ معمولی خراش کی وجہ سے بہت تھوڑا سا خون نکل آنے کی وجہ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ باطل ہو گیا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر انسان کے لیے اپنے فعل کے بغیر خون نکلتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مثلاً اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے بہت سا خون نکل گیا تو اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مثلاً: کسی زخم کے پھٹ جانے کی وجہ سے اگر بہت سا خون بہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مثلاً: کسی حادثہ کی وجہ سے بہت سا خون بہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان سب صورتوں میں غیر اختیاری طور پر خون نکلا ہے لیکن اگر خون اپنے ارادہ و اختیار سے نکالا جائے اور اس سے سیٹگی لگوانے کی وجہ سے بدن میں ضعف اور قوت میں کمی آجائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ معنوی طور پر اس میں اور سیٹگی لگوانے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر خون اس قدر معمولی مقدار میں ہو کہ اس سے جسم متاثر نہ ہوتا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہر حال ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان احکام و حدود کو جانتا ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ علی وجہ البصیرت اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ واللہ الموفق۔

روزے دار کے جسم سے خون لینا

سوال: جب رمضان میں روزے دار کے دائیں ہاتھ سے کیمیائی تجزیہ (لیبارٹری ٹیسٹ) کے لیے معمولی مقدار میں خون لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

فتویٰ: کیمیائی تجزیہ کے لیے اس طرح معمولی مقدار میں خون لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ ضرورت و حاجت کی وجہ سے یہ عمل قابل معافی ہے اور اس کا تعلق ان امور میں سے نہیں ہے جن کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے احکام کی روشنی میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

روزے دار کا خون کا عطیہ دینا

سوال: کیا رمضان میں دن کے وقت خون کا عطیہ دینا جائز ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتویٰ: جب کوئی شخص خون کا عطیہ دے اور اس سے بہت زیادہ خون لیا جائے تو سبکی پر قیاس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یاد رہے خون صرف اسی صورت میں لیا جاسکتا ہے جب کسی مریض کو دے کر اس کی جان بچانا مقصود ہو یا ہنگامی حالات کے لیے اسے محفوظ رکھنا مقصود ہو اور اگر خون کی مقدار کم ہو مثلاً: صرف اس قدر ہو جتنا کہ کیمیائی تجزیہ کے لیے انجکشن اور امتحانی نالی وغیرہ میں لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

درد گردہ کا مریض اور روزہ

سوال: میں درد گردہ کا مریض ہوں۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ روزے نہ رکھوں لیکن میں ان کی بات تسلیم نہیں کرتا اور روزے رکھ لیتا ہوں تو اس سے میرے درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں روزے چھوڑ دوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نیز روزے چھوڑ دینے کی صورت میں کفارہ کیا ہے؟

فتویٰ: اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اس سے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے مسلمان اور تجربہ کار ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے، درد میں اضافہ ہونے اور زندگی کو خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا

کھلا دیں۔ آپ پر قضاء نہیں ہوگی کیونکہ صحت کی خرابی اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کے لیے قضاء ممکن ہی نہیں ہے، ہاں البتہ اگر بیماری زائل ہو جائے اور آپ کو تندرستی حاصل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آئندہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہوں گے اور ان گزشتہ برسوں کی قضا لازم نہ ہوگی، جن کے روزے آپ نے نہیں رکھے اور ان کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔

کیا مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟

سوال: میں نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کے خطبہ میں خطیب سے سنا کہ اس مزدور کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے جسے کام کی وجہ سے بہت محنت مشقت اٹھانا پڑتی ہو اور اس کام کے علاوہ وہ کوئی اور کام بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ رمضان کے ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے دے جس کی قیمت انہوں نے پندرہ درہم بیان کی۔ کیا اس فتویٰ کی کتاب و سنت سے کوئی صحیح دلیل ہے؟

فتویٰ: مزدور کے لیے محض کام کاج کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کام کی وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہو جس کی وجہ سے وہ دن کے وقت روزہ افطار کر دینے کے لیے مجبور و مضطر ہو جائے تو وہ اس مشقت کے ازالہ کے لیے روزہ توڑ دے اور پھر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے پیئے اور پھر لگوں کے ساتھ افطار کرے اور اس دن کے روزہ کی بعد میں قضا دے لے اور آپ نے جو فتویٰ ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

کیا مجاہدین روزہ چھوڑ دیں؟

سوال: وہ لوگ جو دشمن سے جنگ کر رہے ہوں کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور پھر بعد میں ان کی قضا دے لیں؟

فتویٰ: جب کافروں سے جنگ کرنے والے مسلمان مسافر ہوں کہ ان کے لیے نماز قصر کرنا

جائز ہو تو پھر ان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور رمضان کے بعد ان کی قضا دے لیں اور اگر وہ مسافر نہ ہوں بایں طور کہ دشمن نے ان کے شہروں پر حملہ کر دیا ہو تو اس صورت میں جہاد کے ساتھ ساتھ جس شخص کو روزہ رکھنے کی بھی استطاعت ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے اور جو شخص روزے اور جہاد..... جب یہ فرض عین ہو..... دونوں سے بیک وقت عہدہ برآ ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اتنے دنوں کے روزوں کی قضا دے جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے۔

ڈرائیوروں کا روزہ

سوال: کیا گاڑیوں اور ٹرکوں وغیرہ کے ڈرائیور بھی جو ایام رمضان میں شہروں سے باہر مسلسل گاڑیاں چلانے کے کام میں مصروف رہتے ہیں، مسافر کے حکم میں ہیں؟

فتویٰ: ہاں یہ حالت سفر میں ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ نماز قصر اور جمع کی صورت میں ادا کریں اور روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا ہمیشہ یہی کام ہے لہذا وہ روزے کب رکھیں؟ تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ لوگ سردیوں کے دنوں میں روزے رکھ لیں جب کہ دن چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جو ڈرائیور شہروں کے اندر گاڑیاں چلاتے ہیں وہ مسافروں کے حکم میں نہیں ہیں لہذا ان کے لیے روزے رکھنا واجب ہے۔

بیماری سے شفاء کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے؟

سوال: ایک عورت نفسیاتی بیماری، بخاری، ڈیپریشن اور اعصابی کمزوری میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ تقریباً چار سال تک روزے نہ رکھ سکی، تو اس حالت میں کیا وہ روزے کی قضا دے یا نہ دے اس کے روزوں کا کیا حکم ہوگا؟

فتویٰ: اگر اس نے عدم قدرت کی وجہ سے روزے ترک کئے ہیں تو جب اسے قدرت

حاصل ہو جائے تو ان تمام روزوں کی قضا واجب ہوگی جو اس نے گزشتہ چار سالوں میں نہیں رکھے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵/۲)

”اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) ان کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور (یہ آسانی کا حکم) اس لیے (دیا گیا ہے) تاکہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔“

ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اگر عورت اپنی بیماری اور عاجزی کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو تو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو نصف صاع گندم یا کھجور یا چاول وغیرہ جو وہاں کے لوگوں کی خوراک ہو کھلا دے کیونکہ اس عورت کی مثال اس بے حد بوڑھے مرد اور عورت کی طرح ہے جنہیں روزے کی وجہ سے شدید مشقت ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکتے ہوں لہذا اس صورت میں اس کے لیے قضا نہیں ہوگی۔

عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا کفارہ

سوال: میں نے رمضان ۱۳۹۵ھ میں دو روزے چھوڑے لیکن ان کی قضا نہ دی حتیٰ کہ ۹۶ھ کا رمضان آ گیا اور پھر ۹۶ھ کے رمضان کے بھی تین روزے نہ رکھے اور پھر محرم ۹۷ھ میں مسلسل پانچ دن قضا دے لی۔ کیا اس صورت میں فدیہ ادا کرنے کی ضرورت تو نہیں؟

فتویٰ: اگر آپ نے مذکورہ روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو آپ پر اس قضا کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں ہے جو آپ نے سرانجام دے دی ہے کیونکہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)
 ”پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔“

اور اگر آپ نے روزے کسی (شرعی) عذر کے بغیر ترک کئے ہیں تو پھر مذکورہ قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہے کیونکہ کسی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ۹۶ھ کے رمضان کے آپ نے جو روزے چھوڑے ان کا کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں البتہ آپ نے ۹۵ھ کے رمضان کے جو دو روزے چھوڑے ہیں قضاء کے ساتھ ساتھ ان کا کفارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے کیونکہ آپ نے کسی عذر کے بغیر ان کو اس قدر موخر کیا کہ ۱۳۹۶ھ کا رمضان آ گیا۔ کھانے کی مقدار یہ ہے کہ ہر مسکین کو نصف صاع وہ کھانا کھلا دیں جو آپ کے شہر میں کھایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے روزے چھوڑنے کا سبب جنسی عمل نہ ہو اور اگر اس کا سبب جنسی عمل ہے تو پھر قضاء کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ہر دن کے عوض ایک ایک مؤمن گردن آزاد کریں، وہ میسر نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھیں اور اگر روزے رکھنے سے بھی آپ عاجز و قاصر ہوں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ واللہ الموفق

روزہ کی بدعتیں

نفلی روزوں کے بارے میں صحیح نقطہ نظر

سوال: رجب میں کچھ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، کیا وہ مہینے کے شروع میں ہوتے ہیں یا درمیان میں یا آخر میں؟

فتویٰ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحَدَّةُ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعْدُ: ماہِ رَجَبِ كے روزوں كی فضیلت میں خاص طور پر كوئی حدیث نہیں آئی۔ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جسے

امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))

”یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں؛ حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔“

البتہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کی عمومی ترغیب آئی ہے۔ سطور ہر قمری مہینہ کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کی ترغیب وارد ہے سحرمت والے مہینوں (ذوالحجہ، محرم اور رجب) میں روزہ رکھنے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔ ان میں رجب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر مہینے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو ایام بیض کے تین روزے (۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ) یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں۔ ورنہ اس میں گنجائش ہے۔ (یعنی نقلی روزہ کبھی بھی رکھا جاسکتا ہے) البتہ رجب کو خاص کر کے اس میں روزہ رکھنے کی کوئی شرعی بنیاد نہیں۔

((وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ))

۱۔ مسند احمد ۲۰۱/۵، سنن بیہقی نسائی ۲۰۱/۳، ابن ابی شیبہ ۱۰۰۳/۳، ابو یعلیٰ، ابن زنجویہ، ابن ابی عامر، باوردی، سعید بن منصور۔ دیکھئے کنز العمال ۶۵۵/۸۔

۲۔ حدیث ہے ”مجھے میرے ظلیل ﷺ نے تین کاموں کا حکم فرمایا: ہر مہینے تین روزے رکھنا..... الخ حدیث بخاری رقم: ۱۹۸۱، مسلم حدیث: ۷۲۱، ابو داؤد حدیث: ۱۳۳۲، ترمذی حدیث: ۷۶۰، نسائی ۲۲۹/۳، صحیح ابن خزیمہ حدیث: ۲۱۲۳ میں ہے یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

و تمّ اللجنة الدائمة رکن: عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، نائب فتوى (۵۱۶۹)

رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا جائز نہیں

سوال: میں نے دیکھا ہے کہ لوگ رجب اور شعبان میں مسلسل روزے رکھتے ہیں اور پھر رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ اس مدت میں روزہ ترک نہیں کرتے۔ کیا اس بارے میں کوئی حدیث وارد ہے اگر ہے تو اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟
فتویٰ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعْدُ:

کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نبی ﷺ نے رجب کا پورا مہینہ یا شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ نہ کسی صحابی سے ایسا عمل ثابت ہے۔ بلکہ نبی ﷺ سے رمضان کے سوا کسی بھی مہینے کے تمام ایام کے روزے رکھنا ثابت نہیں۔ صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ))

”رسول اللہ ﷺ (مسلسل) روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے: آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور (مسلسل) افطار کرتے (بغیر روزے کے رہتے) حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو رمضان کے سوا کسی مہینہ میں پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔“
یہ حدیث بخاری اور مسلم ﷺ نے روایت کی ہے۔

بخاری کتاب الصوم باب صوم رمضان (۱۹۶۹) مسلم کتاب الصيام۔ باب صيام النبي ﷺ

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَمَا مَلَءَ قَطْرَ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ))^۱

”نبی ﷺ نے رمضان کے سوا کبھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور آپ ﷺ (مسل) روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ یہ کہنے لگتا ”اللہ کی قسم! آپ ﷺ تو (اس مہینہ میں) روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور روزہ چھوڑے رکھتے تھے حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہنے لگتا ”اللہ کی قسم! آپ تو (اس مہینہ میں) روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔“

یہ حدیث بخاری اور مسلم رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے۔ لہذا پورا ماہ رجب نفلی روزے رکھنا یا پورا ماہ شعبان نفلی روزے رکھنا روزہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی سنت اور اسوہ کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ بدعت ہے اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))^۲

”جس نے ہمارے اس دین میں وہ کام نکالا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔“

اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
اللجنة الدائمة، رکن: عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غديان، نائب صدر:
عبدالرزاق عثمی، صدر: عبدالعزیز بن باز رضی اللہ عنہما

۱ بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب ما یذکر من صوم النبی ﷺ وافتارہ (۱۹۷۱) مسلم۔ کتاب

الصیام۔ باب صیام النبی (۱۱۵۷)

۲ بخاری۔ کتاب الصلح۔ باب اذا اصطلحوا علی صلح جور (۲۶۹۷) مسلم کتاب الاقضیة

باب نقض الاحکام الجاهلیة (۱۷۱۸)

سوال: ایک آدمی کے ذمہ مسلسل دو ماہ کے روزوں کا کفارہ لازم ہے اور وہ شوال کے چھ روزے بھی رکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ روزے رکھنا جائز ہے؟

فتویٰ: واجب یہ ہے کہ جلدی سے پہلے کفارہ کے روزے رکھے جائیں۔ کفارہ کے روزوں سے پہلے شوال کے چھ روزے رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ روزے نفل ہیں اور کفارہ کے روزے فرض ہیں اور انہیں فوراً رکھنا فرض ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انہیں شوال کے چھ روزوں یا دیگر نفل روزوں سے پہلے رکھا جائے۔

دوائی کے ساتھ غرارے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال: کیا کسی دوائی کے ساتھ غرارے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتویٰ: اگر اس دوائی کو نگلانا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مگر ایسا صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا چاہیے تاہم اگر دوائی کا کوئی حصہ پیٹ میں داخل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

کس سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال: وہ کون سا سفر ہے جس میں روزہ چھوڑا جاسکتا ہے؟

فتویٰ: ایسا سفر جس کے باعث روزہ چھوڑنا اور نماز قصر کرنا درست ہے وہ کم از کم تقریباً ۸۳ کلومیٹر ہونا چاہیے جب کہ بعض علماء کی رائے میں مسافت کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ ہر وہ سفر جو لوگوں کے ہاں تفریح سمجھا جاتا ہے اس حکم میں داخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب تین فرسخ (نومیل قریباً) لبا سفر اختیار فرماتے تو نماز قصر فرماتے مگر کسی حرام کام کے لئے کئے گئے سفر میں نماز قصر کرنا یا روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسا سفر کسی شرعی عمل میں رخصت حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء عام دلائل کی بنا پر جائز اور تاجز سفر میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ (واللہ اعلم)

﴿ماخوذ از فتاویٰ دارالافتاء سعودی عرب فتاویٰ ابن باز، فتاویٰ اہمیاہ فتاویٰ اسلامیہ شائع کردہ کتاب وسنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ دارالسلام لاہور پاکستان﴾ فتاویٰ علماء بلد الحرام طبع سعودیہ

رمضان المبارک میں کی جانے والی بعض غلطیاں

معزز قارئین..... رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو اس کی بابرکت گھڑیوں سے خوب استفادہ کرتے ہیں اور آنسوؤں کی برسات سے گناہوں بھرا دامن پاک کر لیتے ہیں۔ رحمت الہی کے بیش بہا خزانوں سے جھولیاں خوب بھرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کو راضی کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو غفلت کی لمبی چادر تانے اس مہینہ کو گزار دیتے ہیں اور اس کی برکتوں سے یکسر محروم رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود ساختہ مسائل پر عمل پیرا ہو کر ثواب دارین کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے مگر ہم اپنی ان گزارشات میں فقط ان غلطیوں کی نشاندہی اور ان کے متعلق دین اسلام کا صحیح موقف واضح کرنے کی کوشش کریں گے جن کا ارتکاب لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں کرتے ہیں۔

(۱) سحری جلدی کھانا:

ہمارے ہاں بعض روزہ دار سحری کا وقت ختم ہونے سے کافی دیر پہلے سحری کھا لیتے ہیں یہ فعل سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھائے تاکہ وہ پورے اجر کا مستحق ہو سکے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو

گئے، پوچھا گیا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا: ”پچاس آیات کے بقدر“ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سحری جلدی نہیں کھانی چاہئے۔

(۲) حَبِطِي عَلَي الصَّلٰوةِ پَر کھانا بند کر دینا:

ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ صبح کی اذان میں جب مؤذن حَبِطِي عَلَي الصَّلٰوةِ کہے اور تو اگر کوئی روزہ دار سحری کھا رہا ہے تو فوراً بند کر دے۔ یہ فعل بھی سنت کے خلاف ہے۔ کھانے پینے سے رکنے کے لئے حَبِطِي عَلَي الصَّلٰوةِ کے کلمات کسی آیت یا حدیث میں مذکور نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کھاؤ پو یہاں تک کہ فجر کے وقت تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے“ (البقرہ)

البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اذان ختم ہونے تک یا اس کے بعد سحری کھائی جائے بلکہ اصل بات سیاہ دھاری اور سفید دھاری کا الگ ہونا ہے اگر اذان پورے وقت پر ہوتی ہے تو اذان سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہئے۔ اذان سے سحری کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے نہ کہ کلمہ حَبِطِي عَلَي الصَّلٰوةِ پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔

(۳) اذانِ فجر کے دوران کھانا پینا:

بعض لوگ جان بوجھ کر سحری لیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اذان فجر کے دوران جلدی جلدی کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے اس فعل کو عادت بنا رکھا ہے بعض دفعہ اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے خصوصاً اگر اذان تھوڑی سی بھی لیٹ ہو، یا عین وقت ختم ہونے پر شروع ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”بے شک بلال رات کو اذان دیتا ہے تم کھاؤ اور پو یہاں تک ابن ام مکتوم اذان دے۔“ (متفق علیہ)

یعنی پہلی اذان کے بعد کھانے اور دوسری اذان پر رک جانے کا حکم ہے۔ یہ تو اس آدمی کے حق میں فیصلہ ہے جو اس کو عادت بنا لے لیکن اس کے ساتھ یہ عرض بھی کرنا چاہوں گا اگر کبھی ایسے ہو کہ انسان کچھ کھا پی رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو پیارے رسول ﷺ

کے اس فرمان کو مدنظر رکھے:

”اگر تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو نیچے نہ رکھے حتیٰ کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے“ (ابوداؤد، حاکم، بیہقی)

اس لئے مذکورہ دونوں احادیث میں تطبیق یہی ہے کہ انسان اس فعل کو عادت نہ بنائے کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۴) فجر کی اذان جلدی کہنا:

بعض علاقوں میں سحری کا وقت ختم ہونے سے ۵۔۱۰ منٹ احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اذان فجر کہہ دی جاتی ہے، ایسے لوگ تعریف کے مستحق نہیں کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْمَوْذِنُ مُؤْتَمَنٌ))

”موذن امانت دار ہے“ (ابوداؤد، ترمذی)

بعض علاقوں میں پندرہ بیس منٹ پہلے ہی اذان کہہ دی جاتی ہے یہ ذاتی رائے اور عقل کو شریعت پر مقدم کرنے کی قبیح حرکت ہے۔ اگر کسی علاقہ میں اذان پہلے کہنے کا رواج جڑیں پکڑ چکا ہے تو ایسی اذان کے بعد طلوع فجر تک کھانا پینا جائز ہے۔

(۵) بھول کر کھانے پینے والے پر سختی:

ہمارے ہاں بعض لوگ بھول کر کھانے پینے والوں پر بہت سختی کرتے ہیں اور جو آدمی بھول کر کھاپی لیتا ہے اس کے روزہ میں شک کرتے ہیں۔ ہم ایسے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے کہ بھول کر کھاپی لینے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی روزہ نوتا نہیں ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی ایک بھول کر کھاپی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا، پلایا ہے“

(۶) بھول کر کھانے والے کو نہ بتلانا:

ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھا رہا ہو تو

اسے دیکھنے والے تہیہ کرنے کی بجائے خاموش رہتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے لہذا ہم اسے بتا کر اللہ تعالیٰ کا عطاء کردہ رزق منقطع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ منطق بھی صحیح نہیں۔ حدیث میں جو یہ لفظ وارد ہوئے ہیں ”وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے بتایا نہ جائے کیونکہ روزہ کی حالت میں کھانا پینا منع ہے جب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو تہیہ کرنا ضروری ہے۔

(۷) اذانِ مغرب کی تاخیر:

بعض مساجد میں احتیاط کے نام پر مغرب کی اذان تاخیر سے ہوتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے کی تسلی ہو جائے۔ یہ منطق بھی قرآن و حدیث کی کسوٹی پر ہرگز پوری نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ“ پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔

نبی ﷺ نے سحری تاخیر سے کھانے اور افطاری جلد کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جو نبی ﷺ سورج غروب ہو روزہ افطار کر لینا چاہئے اور اس عقلی منطق کے ذریعے اسلام پر حملہ کرنے کی بجائے کسی دوسرے کام میں لگانا چاہئے۔

یہ بھی یاد رہے کہ افطاری میں تاخیر یہود و نصاریٰ کی مشابہت ہے اور نبی ﷺ کی مخالفت ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔“ (متفق علیہ)

اور فرمایا ”تین چیزیں اخلاقِ نبوی نبوت میں سے ہیں ”افطاری جلد کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دائیاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا“ (طبرانی)

(۸) مسواک نہ کرنا:

بعض لوگ روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرتے اور بعض لوگ زوال کے بعد اور

بعض عصر کے بعد مسواک کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ روزہ کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک ممنوع نہیں ہے اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی حدیث سخت ضعیف اور ناقابل عمل ہے۔ نبی ﷺ نے تو مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”مسواک منہ کے لئے صفائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔“

(صحیح الجامع الصغیر)

(۹) حالت جنابت اور روزہ:

بعض لوگ حالت جنابت کو روزہ ختم ہونے کا سبب سمجھتے ہیں اور بعض لوگ سحری کے وقت جنبی حالت میں کھانے کو غلط تصور کرتے ہیں یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، اگر روزہ کی حالت میں اپنے آپ نیند وغیرہ میں انسان جنبی ہو جائے تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور اسی طرح اگر وقت کم ہو تو وہ غسل کرنے سے قبل سحری کھا سکتا ہے اور بعد میں غسل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کرتے کرتے سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ از خود احتلام روزے کو باطل نہیں کرتا کیونکہ یہ روزہ دار کے اختیار میں نہیں اور اس کو کسی بھی حدیث میں نواقض روزہ میں ذکر نہیں کیا گیا۔

(۱۰) رمضان المبارک کی راتیں اور بیوی سے تعلق:

بعض لوگ رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ازواجی تعلقات قائم نہیں کرتے اور نہ ہی اسے جائز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ممانعت صرف دن کے وقت ہے جب کہ انسان روزہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو“ (البقرہ)

(۱۱) کھانے کا ذائقہ چکھنا:

بعض عورتیں روزہ کی حالت میں کھانے کا نمک وغیرہ چیک کرنے کے لئے کسی بچے کو کہتی ہیں اور خود نہیں چکھتیں جس سے بعض دفعہ عجیب سی صورتحال جنم لیتی ہے۔ علماء سلف اور موجودہ دور کے محققین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت کھانے میں نمک مرچ وغیرہ چیک کر سکتی ہے، اس کو فقط زبان پر لگائے اسکا اثر آگے نہ جانے دے، ہاں اگر کھانے کا اثر حلق تک جانے کا اندیشہ ہو تو پھر رہنے دے۔

(۱۲) حیض و نفاس والی عورتیں:

بعض عورتیں نفاس کے چالیس ایام پورے ہونے سے قبل ہی پاک ہو جاتی ہیں یعنی ان کا خون رک جاتا ہے اور وہ غسل کر لیتی ہیں مگر وہ اس لئے روزہ نہیں رکھتیں کہ ابھی چالیس دن پورے نہیں ہوئے۔ یہ حقیقت میں زبردست غلطی ہے۔ عورت اگر چالیس دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے فوراً نماز اور روزہ کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اسی طرح وہ عورت جو حیض و نفاس کے عارضہ سے فجر سے پہلے پاک ہو جائے اسے چاہئے کہ سحری کھالے اور بعد میں غسل کر لے کیونکہ سحری کھانے کے لئے غسل ضروری نہیں۔ اگر وقت کم ہو تو وہ کھانا کھانے کے بعد غسل کرے گی اور فجر کی نماز اور روزہ پورا ایسا نہ کرے۔

(۱۳) عورتوں کا خوشبو لگا کر نماز تراویح میں شریک ہونا:

بعض عورتیں خوشبو لگا کر نماز تراویح کے لئے مسجد میں حاضر ہوتی ہیں یہ فعل حرام اور مقاصد شریعت کے سراسر منافی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ”جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نماز کے لئے آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کرے“ (ابن ماجہ) اور بعض احادیث میں آپ نے ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا ہے۔

(۱۴) نماز تراویح کے رکوع میں شامل ہونا:

ہمارے ہاں بعض لگوں کی عادت ہے کہ وہ نماز تراویح کے رکوع میں شامل ہوتے

ہیں تاکہ لمبے قیام سے بچا جاسکے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی“ ہم عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث تحقیق کے ترازو میں پوری نہیں اترتی اور دوسری بات کہ رکوع میں شامل ہونے والے تراویح کے مقصد کو نہیں جانتے اور وہ اس بابرکت کام کی روح سے بے خبر ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“ (متفق علیہ)

(۱۵) جماعت میں ملنے کے لئے جلدی جلدی رکعت ادا کرنا:

بعض لوگ اگر نماز تراویح سے لیٹ ہو جائیں اور امام ایک رکعت ادا کر لے تو وہ جماعت میں ملنے کے لئے جلدی جلدی رکعت ادا کرتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ زبردست غلطی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”جو تم پالو وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرو“ اس لئے اگر نماز تراویح میں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہو تو اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہئے اور بقیہ نماز سلام کے بعد پوری کر لینی چاہئے۔

(۱۶) نماز تراویح کو جلدی جلدی ادا کرنا:

ہمارے ہاں یہ عجیب بیماری عام ہے کہ نماز تراویح اتنی تیز پڑھی جاتی ہے کہ انسان کوئی تسبیح و تحمید بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس تیز رفتاری سے پڑھا جاتا ہے کہ الحفیظ والامان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ”اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو“ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا ثواب کی بجائے باعث گناہ ہے۔ نبی ﷺ نے منافق کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ نماز اتنی تیز ادا کرتا ہے جیسے کوٹھونگیں مار رہا ہوں۔

مسلمان بھائیو!..... نماز تراویح کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو اور رسمی طور پر قیام رمضان کی بجائے ایمان اور احتساب کے ساتھ قرآن سنو۔ ہمارے دلوں پر قرآن مجید اثر

احکام و مسائل رمضان

نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے اور تلاوت کی بجائے اس کی توہین کرتے ہیں۔

اور اگر شبینہ کی تلاوت سنی جائے تو حفاظ کرام Night coach کی طرح اتنی سپیڈ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ کسی لفظ کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کس نے پابند کیا ہے کہ تین راتوں میں مکمل قرآن سنا جائے۔ قرآن کا تقدس پامال کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ تھوڑا سا لیا جاتا مگر اس کے آداب کا مکمل خیال رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”بے شک وہ مؤمن کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں“

نبی ﷺ نے فرمایا:

”سب سے بدترین چور وہ ہے: جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہ عرض کرنے لگے: نماز میں چوری کیسے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا۔

(۱۷) قنوت نازلہ میں اوپر دیکھنا:

بعض لوگ قنوت نازلہ میں دعاء کے لئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فعل بھی غلط ہے اور اس کی وعید نبی ﷺ سے وارد ہے۔ آپ نے اس کی مزایہ بیان کی کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو اچک لے۔

(۱۸) سرمہ نہ لگانا:

بعض لوگ روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے کو برا خیال کرتے ہیں اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں، روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان غلطیوں کی اصلاح کریں گے اور ہمارے لئے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں خلوص دل سے دعاء گورہیں گے۔



دارالابلاغ
کتاب و سنت کی اسماحت
کامیابی اور آواز



اپنے خاندان کو

بیہودہ ڈائجسٹوں و ناولوں سے بچائیں اور

قرآن و حدیث سے مہکتی، دیدہ زیب اور دل نشیں کتابوں کا مطالعہ کروائیں